

عظم الامام ابو حنیفہ
 رحمۃ اللہ علیہ
 حالات کمالات مہفوظات

ترجمہ
 تبیض الصغیفۃ فی مناقب امام ابو حنیفۃ

مؤلف
 علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

مترجم
 مولانا ڈاکٹر قاضی خلیل احمد صدیقی

دارالقرآن
 لاہور - پاکستان

عظیم ابو حنیفہ
رحمۃ اعلیہ
امام امام
حالات، کمالات، ملفوظات

ترجمہ

تبیین الضعیفۃ و مناقب الإمام ابو حنیفہ

مؤلف

علامہ جلال الدین سیوطی
رحمۃ اعلیہ

مترجم

مولانا ذاکر شاہ خلیل احمد صاحب دہانوی

دارالتقرآن

لاہور - پاکستان

0333-4248644

﴿ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں ﴾

نام کتاب: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حالات، کمالات، ملفوظات
 اردو ترجمہ: (تبییض الصحیفہ فی مناقب الام ابی حنیفہ)
 مؤلف: علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
 مترجم: مولانا ڈاکٹر غلیل احمد تھانوی صاحب
 ناشر: دارالقلم ۹۳ علی بلاک اعوان ٹاؤن ملتان روڈ لاہور
 ﴿ ملنے کا پتہ ﴾
 دارالقلم ۹۳ علی بلاک اعوان ٹاؤن ملتان روڈ لاہور
 موبائل: 0333-4248644

نوٹ

کتاب خدا کو اپنے کسی بھی قریبی مکتبہ یا ایک سال سے طلب فرمائیں

فہرست

۹	☆	عرض مترجم
۱۱	☆	مختصر حالات امام اعظم ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۱۱	☆	نام و نسب
۱۱	☆	ولادت
۱۱	☆	صورت و سیرت
۱۱	☆	دعاء حضرت علی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۲	☆	پرورش امام اعظم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۱۲	☆	تحصیل علم
۱۲	☆	شیوخ و اساتذہ
۱۳	☆	مشہور تلامذہ
۱۳	☆	تدوین فقہ
۱۳	☆	مسانید امام اعظم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۱۴	☆	انکار قضاء
۱۴	☆	وفات
۱۵	☆	تذکرہ اجداد
۱۵	☆	ائمہ مجتہدین کے بارے میں حضور ﷺ کی بشارتیں
۱۸	☆	صحابہ <small>رضی اللہ عنہم</small> سے امام صاحب کی ملاقات و روایت
۲۰	☆	صحابہ <small>رضی اللہ عنہم</small> سے امام صاحب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی مرویات
۲۴	☆	تابعین و تبع تابعین سے امام صاحب کی مرویات
۲۵	☆	فقہاء کی ہستی
۲۶	☆	کوفہ میں محدثین فقہاء کی کثرت

- ☆ علمائے حریمین سے نقل احادیث ۲۷
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حریمین میں قیام و آمد و رفت ۲۸
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کی تعداد ۲۸
- ☆ امام صاحب کے مذہب کے رائج اور قوی ہونے کی دلیل ۳۰
- ☆ غلط فہمی کا ازالہ ۳۱
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی عظمت ۳۱
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرنے والوں کے اسماء گرامی ۳۲
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی کثرت ۳۳
- ☆ ابو حنیفہ کے شاگرد اپنے زمانے کے مشائخ شمار ہوتے تھے ۳۴
- ☆ امام صاحب کی تدوین مسائل میں احتیاط ۳۵
- ☆ ضبط حدیث میں امام صاحب کا مقام بلند ۳۶
- ☆ محدثین کا امام صاحب پر اعتماد ۳۶
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبار محدثین میں سے ہیں ۳۷
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بکثرت روایات منقول نہ ہونے کی وجہ ۳۸
- ☆ کبار محدثین امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کرتے ہیں ۳۸
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حماد بن ابی سلیمان کی صحبت میں ۴۰
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ۴۱
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قاسم بن معن رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ۴۲
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ۴۲
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ابن جریج کی کیفیت غم ۴۲
- ☆ سب سے بڑا فقیہ ۴۲
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ سنن ۴۴
- ☆ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے ۴۴
- ☆ یحییٰ بن القطان رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر اقوال پر فتویٰ دیتے تھے ۴۴
- ☆ فقہ میں لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خوشہ چیں ہیں ۴۵

- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گزاری ۴۵
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ ۴۷
- ☆ عہدہ قضا سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انکار ۴۷
- ☆ امام صاحب کا خلیفہ منصور کے وظیفہ سے انکار ۴۸
- ☆ یزید بن ہارون اور محمد بن عبداللہ انصاری کی رائے ۴۹
- ☆ ہم مجلسوں کا اکرام ۴۹
- ☆ فراست امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۴۹
- ☆ معاندین سے حسن سلوک ۵۰
- ☆ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے امام ابوحنیفہ کے بارے میں تعریفی کلمات ۵۱
- ☆ ابن ابی داؤد کی رائے ۵۲
- ☆ اپنے حاسدین کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ۵۲
- ☆ ابن ابی عائشہ کا قول ۵۲
- ☆ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اجتہاد و استنباط ۵۳
- ☆ علم نبویؐ کے وارث ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب ہیں ۵۳
- ☆ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیاں ۵۴
- ☆ جو فقہ سکھنا چاہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کو لازم پکڑے ۵۴
- ☆ وکع رحمۃ اللہ علیہ کا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنا ۵۵
- ☆ نصر بن شمل رحمۃ اللہ علیہ کے تعریفی کلمات ۵۵
- ☆ مسعر بن کدام امام کے حلقہ درس میں ۵۵
- ☆ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ۵۵
- ☆ معمر رحمۃ اللہ علیہ کے تعریفی کلمات ۵۵
- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابو داؤد کا فیصلہ ۵۶
- ☆ قاری ابو عبدالرحمن کا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل حدیث کا انداز ۵۶
- ☆ دنیا کے سب سے بڑے عالم ۵۶
- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غیبت سے احتراز ۵۷

- ☆ حاسدین کے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات ۵۷
- ☆ مسعر بن کدام کا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی معیت اختیار کرنا اور ان کی مسجد ہی میں مرنا ۵۷
- ☆ شب بیداری ۵۹
- ☆ احادیث پر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اعتماد ۵۹
- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھامنے والا ۵۹
- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر معترض کی حیثیت ۵۹
- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اکرام کرنا ۶۰
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صحابی کے قول کو قیاس پر ترجیح دینا ۶۰
- ☆ رات دن میں دو قرآن کی تلاوت ۶۱
- ☆ رات کی نماز میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ۶۱
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شفیق کی رائے ۶۱
- ☆ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ۶۱
- ☆ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور عمری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ۶۱
- ☆ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کا قول ۶۲
- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقلی بلندی ۶۲
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پر فتویٰ نہیں دیتے ۶۲
- ☆ وتروں میں سورتوں کی تلاوت ۶۲
- ☆ ابوقاسم بن برہان الخوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ۶۲
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ۶۲
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حاضر جوابی ۶۳
- ☆ عہدہ قضا سے بچنے کے لئے حیلہ ۶۳
- ☆ سلف صالحین کی پیروی لازم ہے ۶۳
- ☆ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ کا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنا ۶۵
- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے بارے میں ابن معین کا قول ۶۵

- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کم گوئی ۶۶
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسیوں سے حسن سلوک ۶۶
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت ۶۷
- ☆ منصور کے دربان کی مکاری سے امام صاحب کا بچاؤ ۶۷
- ☆ ابو العباس طوسی کے نکر سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع ۶۸
- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خوفِ خدا ۶۹
- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سنِ ولادت و وفات ۶۹
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجلسِ وقار ۷۱
- ☆ خوفِ الہی سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رونا ۷۱
- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں صرف ایک بوری ۷۱
- ☆ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثل ان کے بعد نہیں ہوا ۷۲
- ☆ اپنے مخالفین کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ۷۲
- ☆ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ساری رات علمی مذاکرہ ۷۲
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہنے پر ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ڈانٹنا ۷۳
- ☆ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک تعریفی نظم ۷۳
- ☆ غسان بن محمد کی مدح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں ایک نظم ۷۳
- ☆ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کی تدبیر ۷۴
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مدح میں چند اشعار ۷۴
- ☆ علمِ شریعت، فرائض اور کتاب الشروط کے پہلے مدون ۷۵
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بعض مرویات ۷۶
- ☆ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر صف میں اعظم تھے ۸۱
- ☆ فقیہ العصر حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالاتِ زندگی ۸۲
- ☆ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ۸۷
- ☆ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ۸۷

- ☆ بہترین زمانہ ۸۷
- ☆ دنیا میں موجود مذاہب ۸۸
- ☆ چوتھی صدی کے بعد اجتہاد مطلق ختم ۸۹
- ☆ تابعین کی مقبولیت مسلم ہے ۸۹
- ☆ تاریخ کی تعریف ۸۹
- ☆ امام صاحب رحمہ اللہ تابعی ہیں ۹۰
- ☆ غلط فہمی کا ازالہ ۹۲
- ☆ حدیث صحیح کی تعریف ۹۲
- ☆ امام صاحب رحمہ اللہ کی مرویات کے صحیح ہونے کی وجہ ۹۳
- ☆ امام صاحب رحمہ اللہ علم باطن میں ہم عصروں سے اعظم تھے ۹۳
- ☆ امام صاحب رحمہ اللہ کی دنیا سے بے رغبتی ۹۴
- ☆ ائمہ طریقت کے امام اعظم رحمہ اللہ ۹۵
- ☆ علم ظاہر میں سب سے اعظم ۹۵
- ☆ امام صاحب رحمہ اللہ زہد و تقویٰ کی شہادت ۹۷
- ☆ امام صاحب رحمہ اللہ کی عظمت کا اعتراف ۹۸
- ☆ یکتائے زمانہ عالم ۹۹
- ☆ امام صاحب رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کا ان سے ۱۰۱
- ☆ کسب فیض و ادب
- ☆ امام صاحب رحمہ اللہ کے علوم کا نفع عام و تام ۱۰۱
- ☆ ملفوظات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ۱۰۳

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض مترجم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد!

میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ممتاز شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”تبیض الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ“ کا ترجمہ کروں۔ اس کتاب پر حضرت مولانا محمد عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی مفید تعلیقات بھی تھیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ کتاب کے ترجمہ کے ساتھ اس میں سے مفید مباحث کا ترجمہ بھی کر دوں۔ چنانچہ ان کے ترجمہ کے ساتھ میں نے ان پر مفید عنوانات بھی قائم کیے تاکہ قاری اس کتاب کے مضامین سے کما حقہ لطف اندوز ہو سکے۔ اسی دوران میری نظر سے والد گرامی حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک مضمون گذار جس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ امام صاحب ہر صفت میں امام اعظم ہیں۔ اس کو بھی اس کتاب کا حصہ بنادیا گیا۔

ممتاز شاہ صاحب نے میرے استاد گرامی حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب کا ایک مضمون ”ملفوظات امام اعظم“ جو البلاغ میں کئی اقساط میں طبع ہوا تھا دکھایا اور خواہش ظاہر کی کہ اس کو بھی کتاب میں شامل کر لیا جائے۔ مزید برآں یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ،

مولانا عاشق النبی البرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات بھی اس کتاب کے شروع میں لکھ دیئے جائیں۔ یہ کام بھی کر دیا گیا۔ اب الحمد للہ یہ ایک مفید کتاب ہو گئی ہے کہ جس میں مختلف اکابرین کے شہ پارے بھی جمع ہیں اور ان کے مختصر حالات زندگی سے بھی قاری کو آگاہی ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور مجھے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے کفش برداروں میں شمار فرمائے آمین!

نوٹ: یاد رکھیے! مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات کو فائدہ کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے۔

خلیل احمد تھانوی
خادم ادارہ اشرف التحقیق
جامعہ دارالعلوم اسلامیہ لاہور
۲ محرم الحرام ۱۴۲۸ھ

مختصر حالات امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ

نام و نسب

آپ کا اسم گرامی نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بن ثابت بن قیس بن یزید گرد بن شہریار بن پرویز بن نو شیر و اں عادل بادشاہ۔ اس نسب کی وجہ سے آپ کا مزاج شاہانہ و عادلانہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی جو نام سے زیادہ مشہور ہوئی اور آپ کا لقب امام اعظم تھا۔

ولادت

خطیب بغدادی سے منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پوتے اسماعیل نے فرمایا کہ میرے دادا ابو حنیفہ ذوالحجہ ۸۰ ہجری میں پیدا ہوئے۔

صورت و سیرت

تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ میانہ قد، گندم گوں خوبصورت چہرے والے تھے۔ آپ عالم، زاہد، عابد، متقی، خلیق، خوش صورت و سیرت اور شیریں زبان تھے۔

دعاء حضرت علی رضی اللہ عنہ

حضرت اسماعیل رحمہ اللہ (امام اعظم کے پوتے) فرماتے ہیں کہ میرے پردادا حضرت ثابت (والد امام اعظم) بچپن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے گئے تو آپ نے

ان کے واسطے اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ وہ ایسی مقبول ہوئی کہ امام اعظم جیسی باکمال شخصیت ان کے ہاں پیدا ہوئی۔

پرورش امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ

مفتاح السعادة میں منقول ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد جب فوت ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کیا۔ اس وقت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ معصوم بچے تھے۔ انہوں نے ان کی سرپرستی میں پرورش پائی اور یہ آپ کے لیے منقبت عظیمہ ہے۔

تحصیل علم

آپ نے سن شعور میں تحصیل علم ضروری کے بعد ذریعہ معاش تجارت اختیار کیا لیکن آپ کی ذہانت اور توانائی کے پیش نظر امام شعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ تمام مشغولیت ترک کر کے مزید علمی کمال حاصل کریں اس مشورہ پر عمل کرتے ہوئے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً تجارت کا شغل چھوڑ کر علم میں ایسا کمال حاصل کیا کہ علم کلام میں مشہور ہو گئے۔ پھر آپ نے اصحاب و تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم حدیث اور علم فقہ کی طرف توجہ فرمائی اور ایسا کمال حاصل کیا کہ علمی و عملی دنیا میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دلی کامل کہلانے لگے۔

شیوخ و اساتذہ

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے چار ہزار مشائخ سے حدیث اور فقہ کو اخذ کیا ان میں سے تین سوتابی تھے۔ جن میں سے چند مشہور اساتذہ کے نام یہ ہیں۔ عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، علقمہ بن مرشد رحمۃ اللہ علیہ، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن مسلم بن شہاب زہری وغیرہ۔

مشہور تلامذہ

میسوں علماء نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے علمی فیض حاصل کیا ان میں سے مشہور شاگرد یہ ہیں جنہوں نے اپنے شیخ کے مسلک کے مطابق درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سینکڑوں علماء پیدا کئے۔

علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرۃ النعمان میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تدریس کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ خلیفہ وقت کی حدود حکومت اس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ حافظ ابو الحسن الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نو سو اٹھارہ اشخاص کے نام بقید نام و نسب لکھے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔ قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی، زفر بن ہذیل، یحییٰ بن سعید القطان، عبداللہ بن المبارک، وکیع بن الجراح اور داؤد الطائی وغیرہ۔

تدوین فقہ

سب سے پہلے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں علم فقہ کو مدون کر کے مسائل کے ابواب مرتب کیے۔ چالیس کبار علماء جو امام صاحب کے شاگرد اور ارادت مند خاص تھے وہ آپ کے ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین میں شریک ہوئے یہ امام صاحب کی زندگی کا بہت بڑا فقیہی کارنامہ ہے۔

مسانید امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ

محققین علماء نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پندرہ مسانید شمار کی ہیں جس میں ائمہ دین اور حفاظ حدیث نے آپ کی روایات کو جمع کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ان میں سے مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ علمی دنیا میں مشہور ہے جس میں امام ابوالموائد خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جمع کیا ہے۔

امام صاحب کے تفقہ، فہم و فراست، زہد و عبادت اور تقویٰ کے واقعات مناقب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر لکھی گئی بیسیوں کتب میں بکثرت ملتے ہیں۔

انکار قضا

خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کے قاضی ہونے پر مجبور کیا آپ نے عذر کرتے ہوئے عہدہ قضا سے ایسا انکار کیا کہ قسم اٹھائی تاکہ خلیفہ کو دوبارہ کہنے کی جرأت نہ ہو۔ امام صاحب کو ۱۴۶ھ میں قید کیا گیا۔ اس وقت بغداد دار الخلافہ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا۔ امام صاحب کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ قید کی حالت نے ان کے اثر اور قبول عام کو بجائے کم کرنے کے اور زیادہ کر دیا تھا۔ بغداد کی علمی جماعت اثر و رسوخ کی بنا پر خلیفہ نظر بند کرنے کے باوجود ان کی تعظیم و ادب کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ لہذا قید خانہ میں ان کا سلسلہ تعلیم برابر قائم رہا۔ امام محمدؒ نے ان سے وہیں تعلیم پائی۔ ان وجوہ کی بناء پر خلیفہ کو اطمینان نہ ہوا جس کی آخری تدبیر یہ تھی کہ بے خبری میں امام صاحب کو زہر دلوادیا جب ان کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں وفات پائی۔

وفات

رجب ۱۵۰ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ قاضی بغداد حسن بن عمارہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ پچاس ہزار افراد نے نماز جنازہ پڑھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خیرزان قبرستان میں دفن کیا گیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

حمد و صلوة کے بعد جان لو کہ میں نے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو فی الجہت کے مناقب میں ایک مختصر رسالہ بنام ”تبیسض الصحیفۃ فی مناقب الامام ابی حنیفہ“ تحریر کیا ہے۔

تذکرہ اجداد

خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”التاریخ“ میں قاضی عبداللہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسماعیل بن حماد ابن ابو حنیفہ سے سنا ہے کہ ثابت بن نعمان مرزبان فارس کے آزاد مردوں میں سے تھے۔ فرماتے خدا کی قسم ہم پر کبھی بھی غلامی کا دور نہیں گزرا۔

میرے والد ۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ثابت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ چھوٹے سے تھے تو حضرت علی رحمہ اللہ نے ان کے اور ان کی اولاد کے لئے برکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا قبول فرمائی۔

نعمان بن مرزبان ابو ثابت نے حضرت علی بن ابی طالب رحمہ اللہ کی خدمت میں نوروز کے دن فالودہ بھیجا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہمارے لئے تو ہر دن نوروز ہے۔

ائمہ مجتہدین کے بارے میں حضور ﷺ کی بشارتیں

ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں اس حدیث میں خوشخبری سنائی ہے:

((یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون
احدا اعلم من عالم المدینة))

”عنقریب لوگ تلاشِ علم میں اونٹوں پر سوار ہو کر نکلیں گے پس
عالمِ مدینہ (امام مالک) سے زیادہ کسی کو عالم نہیں پائیں گے۔“

امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آپؑ نے اس حدیث میں خوشخبری سنائی:
((لا تسبوا قریشا فان عالمها یملأ الارض علما)) (حلیہ)

”قریش کو گالی مت دو اس لئے کہ ان کا عالم زمین کو علم سے بھر
دے گا۔“

میں کہتا ہوں کہ حضور اکرم ﷺ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں اس
حدیث میں بشارت دی ہے جس کو ابو نعیم نے حلیہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تخریج کیا ہے۔

((قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان العلم بالثريا لتناولوه
رجال من ابناء فارس)) (طبرانی)

”فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر علمِ ثریا ستارے پر
بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو حاصل کر لے
گا۔“

شیرازی نے کتاب الالقاب میں قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث تخریج
کی ہے:

((قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان العلم معلقا بالثريا
لتناولوه قوم من ابناء فارس)) (طبرانی)

”فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اگر علمِ ثریا ستارے
پر بھی معلق ہوگا تو اہل فارس میں سے اس کو ایک قوم حاصل کر لے
گی۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کی اصل صحیحین (بخاری و مسلم) میں ان الفاظ سے منقول ہے:

((لو كان الايمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس)) (بخاری)
 ”اگر ایمان ثریا ستارے کے قریب بھی ہوگا تو اہل فارس میں
 سے بعض لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔“
 مسلم شریف میں ان الفاظ سے منقول ہے:

((لو كان الايمان عند الثريا لذهب به رجل من ابناء فارس حتى
 يتناوله)) (مسلم)

”اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے
 ایک شخص اس میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے گا۔“
 اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہ والی حدیث مجمع طہرانی کبیر میں ان الفاظ سے منقول ہے:
 ((لو كان الايمان معلقا بالثريا لاتعاله العرب لئاله رجال فارس))

(طبرانی)

”اگر ایمان ثریا ستارے پر معلق ہو تو اس کو عرب حاصل نہ کریں
 گے البتہ اہل فارس اس کو حاصل کر لیں گے۔“
 اور مجمع طہرانی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے:
 ((قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين معلقا بالثريا
 لتناوله ناس من ابناء فارس)) (طبرانی)

”فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر دین ثریا ستارے
 پر بھی معلق ہوگا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں
 گے۔“

پس یہ حدیثیں امام صاحب کی بشارت و فضیلت کے بارے میں ایسی صحیح ہیں کہ

ان پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور ائمہ مذکورین سے جو دو حدیثیں (امام صاحب کی فضیلت کے بارے میں) منقول ہیں ان کے لئے یہ مؤید ہیں اور ہر قسم کی خیر موضوع سے بے نیاز کر دینے والی ہیں۔

فائدہ: ابن حجر اثبתי خیرات الحسان میں تحریر فرماتے ہیں: جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے بعض تلامذہ نے فرمایا اور جس پر ہمارے مشائخ نے بھی اعتماد کیا کہ اس حدیث کی مراد بلا شک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، اس لئے کہ اہل فارس میں سے ان کے معاصرین میں سے کوئی بھی علم کے اس درجہ کو نہیں پہنچا جس پر امام صاحب فائز تھے۔ اس حدیث میں حضور ﷺ کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آپؐ نے اس واقعہ کی خبر دی جو آپؐ کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ فارس سے مراد کوئی خاص شہر نہیں بلکہ عجمی یعنی غیر عرب مراد ہیں۔

(تعلیق تبیيض الصحیفة، ص: ۶۰)

صحابہ جنس اللہ سے امام صاحب کی ملاقات و روایت

امام ابو معشر عبدالکریم بن عبدالصمد الطبری المقرئ الشافعی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا، جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مختلف صحابہ سے روایات نقل کی ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ”ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کے ان سات صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ ① انس بن مالک رحمہ اللہ ② عبداللہ بن جزء الزبیدی رحمہ اللہ ③ جابر بن عبداللہ رحمہ اللہ ④ معقل بن یسار رحمہ اللہ ⑤ واثلہ بن الاسقع رحمہ اللہ ⑥ عائشہ بنت عجر رحمہ اللہ۔“

فائدہ: حیدر آباد اور دیوبند دونوں جگہ کے نسخوں میں یہ روایت ایسے ہی منقول ہے۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ابتداءً امام صاحب نے ذکر کیا کہ میں نے سات صحابہ جنس اللہ سے ملاقات کی لیکن نام صرف چھ کے ذکر کئے ساتویں کو ترک کر دیا۔ شاید کاتب نے واثلہ بن اسقع رحمہ اللہ کے بعد عبداللہ بن انیس کو ذکر نہیں کیا، جیسا کہ اس کے بعد جو روایات ذکر کی

گئی ہیں ان سے ظاہر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۲خ۔

(تعلیق تبیض الصحیفہ تبیض ص ۶۲)

پھر انہوں نے تین احادیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بواسطہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کیں اور ابن جزء رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث؛ واثمہ رضی اللہ عنہ سے دو حدیثیں؛ جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث اور عبداللہ بن انیس سے ایک حدیث اور عائشہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث روایت کی ہے۔

یہ جتنی حدیثیں ذکر کی ہیں سب اس طریق کے علاوہ دوسرے طرق سے بھی منقول ہیں۔ لیکن حمزہ سہمی کہتے ہیں کہ میں نے دارقطنی سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی سوائے اس کے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے لیکن ان سے کوئی روایت سنی نہیں۔ اور خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سماع کا قول درست نہیں۔ اس بارے میں جب شیخ ولی الدین عراقی سے فتویٰ حاصل کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی سے روایت نقل کی ہے اور ان کو تابعین میں شمار کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی صحابی سے روایت نقل کرنا تو درست نہیں البتہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ پس جو کوئی تابعی ہونے کے لیے صرف صحابی کے دیکھنے کو کافی سمجھتا ہے ان کو تابعی قرار دیتا ہے۔ اور جو فقط روایت کو کافی نہیں سمجھتا ان کو تابعی شمار نہیں کرتا۔ اور جب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو پایا ہے۔ اس لئے کہ وہ کوفہ میں ۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور وہاں اس زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ موجود تھے ان کا انتقال بالاتفاق اس کے بعد ہی ہوا ہے اور بصرہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ تھے اور ان کا انتقال ۹۰ھ یا اس کے بعد ہوا ہے۔

ابن سعد رحمہ اللہ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کہا جائے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور ان دونوں کے علاوہ بھی اس شہر میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیات تھے۔

ان میں سے بعض حضرات نے ایسے رسالے بھی تصنیف فرمائے جن میں ان روایات کو جمع کیا جو امام صاحب رحمہ اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہیں، لیکن ان کی اسناد میں ضعف ہے۔ قابل اعتماد بات یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ پایا ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات میں ذکر کیا ہے کہ امام صاحب نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے اس اعتبار سے وہ طبقہ تابعین میں سے ہیں۔

فائدہ: شیخ زاہد کوثری نے اپنی کتاب ”تانیب الخطیب“ میں بہت سے حضرات کا قول نقل کیا ہے جنہوں نے امام صاحب کا حضرت انسؓ کو دیکھنے کا اقرار کیا ہے۔ ان کثیر نصوص کی موجودگی میں امام صاحب کے تابعی ہونے کے انکار کی کوشش کرنا عناد و جہل پر مبنی ہے۔ ۱۲خ۔ (تعلیق تبیض الصحیفہ ص ۶۴)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو آخری بات اس سلسلہ میں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے معاصرین جو دوسرے شہروں میں تھے جیسے امام اوزاعی رحمہ اللہ شام میں، حماد بن بصرہ میں، امام ثوری رحمہ اللہ کوفہ میں، امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں، مسلم بن خالد الزنجی رحمہ اللہ مکہ میں اور لیث بن سعد رحمہ اللہ مصر میں ان میں سے کسی کو تابعی ہونے کی فضیلت حاصل نہیں۔ واللہ اعلم۔

صحابہ رضی اللہ عنہم سے امام صاحب رحمہ اللہ کی مرویات

ابو معشر نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں:

((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) (ابن ماجہ)

”دعالم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“

فائدہ: اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی تخریج کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح کے درجہ میں ہے اس لئے کہ یہ پچاس طرق سے مجھے معلوم ہوئی ہے۔
امام اعظم رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں:

((الذال علی الخیر کفاعله)) (مجمع الزوائد)

فائدہ: اس حدیث کو طبرانی نے بھی ذکر کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ”الذال علی الخیر کفاعله“ (مجمع الزوائد)
”بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح برابر ہے۔“

امام صاحب رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں:

((ان اللہ یحب اغاثۃ اللہفان)) (الجامع الصغیر)

”اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد رسی کو پسند کرتا ہے۔“

فائدہ: مقدسی نے بھی مختارات میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ احمد بن مغلس (راوی) متکلم فیہ ہیں۔

پہلی حدیث کا متن مشہور ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس کے معنی صحیح کے درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں۔ حافظ جمال الدین المرنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے طرق سے یہ منقول ہے کہ درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے۔
دوسری حدیث کا متن صحیح کے درجہ کا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ صحیح مسلم میں ابوسعود سے یہ حدیث ان الفاظ میں منقول ہے:

((من دل علی خیر فله مثل أجر فاعله)) (مسلم)

”جس نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اس کے لئے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔“

تیسری حدیث کا متن صحیح کے درجہ میں ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ ضیاء المقدسی نے مختارات میں اس کی تصحیح کی ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے۔

ابو معشر رحمہ اللہ نے ابو عبد اللہ کی سند سے بواسطہ ابن عیاش نقل کیا ہے۔ جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں جو وائلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((۶۰ ما یریبک الی مالا یریبک)) (ترمذی)

”جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دو اور جس میں شک نہ ہو اسے اختیار کرو۔“

امام صاحب رحمہ اللہ ہی وائلہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم ﷺ سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((لا تظهر الشماتۃ لا خیک فیہا فیہ اللہ ویبتلیک)) (ترمذی)

”اپنے بھائی کی تکلیف پر خوش نہ ہو، اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے تمہیں مبتلا کر دیں گے۔“

میں کہتا ہوں پہلی حدیث کا متن صحیح کے درجہ میں ہے جو بہت سے صحابہ سے منقول ہے۔ ترمذی، ابن حبان، حاکم اور ضیاء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حسن بن ابی طالب کی حدیث کی وجہ سے۔

دوسری حدیث کی تخریج ترمذی نے وائلہ سے ایک دوسرے طریق سے کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے جس کی شاہد ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے۔ پھر ابو معشر رحمہ اللہ نے فرمایا ابو یوسف عبد اللہ کی سند سے بواسطہ ابو داؤد و طیالسی جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت

کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں ۸۰ھ میں پیدا ہوا اور عبد اللہ بن انیس رحمہ اللہ ۹۴ھ میں کوفہ میں آئے، میں نے ان کو دیکھا اور سنا۔

میں چودہ سال کا تھا جب میں نے ان کو یہ کہتے سنا:

((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يهني ويصم))

(ابو داؤد)

”حضورؐ نے فرمایا: تیرا کسی کی محبت میں گرفتار ہونا اندھا و بہرہ کر دیتا ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن انیس الحنفی رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں ان کا انتقال ۵۵ھ میں ہوا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں عبد اللہ بن انیس نام کے پانچ افراد ہیں شاید جن سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے روایت کی ہے وہ ان مشہور چہنی صحابی کے علاوہ کوئی اور ہوں۔

پھر ابو معشر رحمہ اللہ نے ابو عبد اللہ کی سند سے ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن اونی سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے ہیں:

((من بنى لله مسجدا ولو كفحص قطعة بنى الله له بيتا في الجنة))

”جس شخص نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اگرچہ سخت پتھر ہی کیوں نہ

ہو اللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔“

میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے بلکہ اس کا متن متواتر ہے۔

اور اسی سند سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ انہوں نے عائشہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے سنا۔ فرماتی تھیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اكثر جند الله في الارض الجراد لا اكله ولا احرمه)) (ابو داؤد)

”زمین میں اللہ کا بڑا الشکر ٹڈیاں ہیں نہ میں ان کو کھاتا ہوں اور نہ

ان کو حرام قرار دیتا ہوں۔“

میں کہتا ہوں اس کا متن صحیح ہے۔ ابو داؤد نے اس کی تخریج سلمان سے کی ہے

اور ضیاء نے اس کو مختارات میں صحیح قرار دیا ہے۔

تابعین و تبع تابعین سے امام صاحب کی مرویات

فائدہ: یہ بات بھی جاننے کے قابل ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جیسے تفقہ اور مسائل کے استخراج کا ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا ان کو اکابر مشائخ سے احادیث کے سماع اور اخذ کا بھی خوب موقع عطا فرمایا اور جن سے انہوں نے احادیث سنی ہیں ان کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔

ابن حجر پیشی خیرات الحسان کی ساتویں فصل میں امام صاحب کے اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس مختصر میں ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ ابو حفص کبیر نے ان کے مشائخ کی تعداد چار ہزار بیان کی ہے۔

بعض دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ ان کے مشائخ چار ہزار تو تابعین ہی تھے ان کے علاوہ جن سے اخذ حدیث کیا ہوگا ان کے بارے میں پھر تمہارا کیا خیال ہے۔ محمد بن یوسف صالحی الدمشقی شافعی رحمہ اللہ نے ”عقود الجمان“ کے نویں باب میں ذکر کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس زمانہ میں پیدا ہوئے جس میں صحابہ کی کثرت تھی۔

پس وہ اس زمانے کے لوگوں میں سے ہوئے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہونے اور عادل ہونے کی گواہی دی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))

”بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں پھر جو ان سے ملے ہوئے

ہیں پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔“

بے شک امام صاحب نے بعض صحابہ کو دیکھا اور انہیں سنا۔ اور انہوں نے تابعین کے زمانے میں مسائل کا اجتہاد کیا اور فتاویٰ رقم کئے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے چار ہزار مشائخ تابعین سے اخذ حدیث کیا۔

خطیب ابو عبد اللہ بن خسر نے ربیع یونس سے روایت کی ہے فرماتے ہیں: کہ ابو حنیفہ امیر المؤمنین ابو جعفر منصور کے یہاں حاضر ہوئے اس وقت اس کے پاس عیسیٰ بن موسیٰ بھی موجود تھے۔ انہوں نے منصور سے کہا: اے امیر المؤمنین! آج یہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے۔ منصور نے پوچھا اے نعمان! تم نے علم کس سے حاصل کیا؟ آپ نے جواب دیا: عمر بن الخطاب رحمہ اللہ کے اصحاب، علی رحمہ اللہ کے اصحاب، عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ کے اصحاب اور عبد اللہ بن عباس رحمہ اللہ کے اصحاب سے۔ اور ابن عباس رحمہ اللہ کے زمانہ میں روئے زمین پر ان سے زیادہ عالم کوئی نہیں تھا۔ منصور بولا: واہ واہ شاباش! مجھے تم پر اطمینان ہو گیا جیسا میں چاہتا تھا۔

فقہاء کی بستی

جو شخص ان شہروں کی تاریخ کو جانتا ہو اور آثار و اخبار اور ان کے راویوں کے حالات سے واقف ہو، جن کا تذکرہ اصحاب سیر نے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں کیا ہے اس کو امام صاحب کے اتنے زیادہ مشائخ کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا اس لئے کہ جس شہر میں امام صاحب پیدا ہوئے اور پرورش پائی یعنی ”کوفہ“ وہ کبار فقہاء و محدثین کا مرکز تھا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم کے حریص تھے اور اس کے حاصل کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔

امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رحمہ اللہ عنہ کے زمانہ میں جب عراق فتح ہوا تو آپؑ نے کوفہ کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا اور ۷۱ھ میں کوفہ تعمیر ہوا۔ قبائل عرب میں سے آپؑ نے فصحاء کو وہاں آباد کیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ کو آپؑ نے وہاں بھیجا تا کہ وہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں اور انہیں دین سکھائیں اس موقع پر آپؑ

نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے اپنے پر عبد اللہ کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔

علم میں تمام صحابہ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ ان کے بارے میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے: ((تمسکوا بعہد ابن ام عبد)) ”ابن ام عبد کے طریق کو لازم پکڑو“۔ نیز آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ((من اراد ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد)) ”جو قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھنا چاہے جیسا نازل ہوا تو اس کو چاہئے کہ ابن ام عبد کی قراءت کے مطابق پڑھے“۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ علم سے بھرا ہوا ایک ظرف ہے۔ یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بناء کوفہ سے لے کر خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک اہل کوفہ کو قرآن و سنت اور فقہ کی تعلیم دی۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کوفہ قراء و محدثین اور فقہاء سے بھر گیا۔ معتمد ترین علماء کی تعداد جنہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب سے علم حاصل کیا چار ہزار ہے۔

اس زمانہ میں ان کے ساتھ اصفیاء صحابہ میں سے کوفہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت حذیفہ، حضرت عمار، حضرت سلمان اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جیسے کبار صحابہ تھے۔ یہاں تک کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ منتقل ہوئے تو اس میں فقہاء کی کثرت سے بہت خوش ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ابن ام عبد پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اس بستی کو علم سے بھر دیا۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ ابن مسعود کے اصحاب اس بستی کے چراغ ہیں۔

کوفہ میں محدثین فقہاء کی کثرت

حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کوئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کم درجہ کے عالم نہیں تھے۔ آپ نے بھی ان فقہاء کی سرپرستی فرمائی۔ چنانچہ محدثین، فقہاء، حاملین علوم القرآن و علوم لغۃ عربی کے جاننے والوں کی کثرت کی وجہ سے کوئی دوسرا شہر کوفہ کی مثل نہ ہو سکا۔

اصفیاء صحابہ رضی اللہ عنہم کے وہاں منتقل ہو جانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ کو اسلامی مملکت کا دار الخلافہ بنا لیا۔ عجل نے ذکر کیا ہے کہ کوفہ میں پندرہ سو اصحاب رسول رضی اللہ عنہم نے قیام فرمایا ہے۔

مسروق بن اجدع رحمہ اللہ جو بڑے درجہ کے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو ان چھ صحابہ میں پایا: ① حضرت علی ② حضرت عبد اللہ ③ حضرت عمر ④ حضرت زید بن ثابت ⑤ حضرت ابی الدرداء ⑥ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم۔ پھر ان چھ کے علوم کو ان دو میں میں منحصر پایا (۱) حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ابو محمد الزہری مزی نے ”فاصل“ میں اشعث سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ انس بن سیرین نے فرمایا کہ میں کوفہ آیا تو میں نے دیکھا کہ چار ہزار افراد علم حدیث حاصل کرنے میں مشغول ہیں اور چار سو اس میں سے درجہ تفقہ پر فائز ہیں۔ اور ”فاصل“ ہی میں محمد الزہری مزی نے ہی عفان سے ذکر کیا ہے کہ ہم کوفہ آئے اس میں ہم چار ماہ ٹھہرے اگر ہم یہ چاہتے کہ ایک لاکھ احادیث نقل کر لیں تو کر سکتے تھے۔ مگر ہم نے صرف پچاس ہزار احادیث ہی لکھیں۔ غور کیجئے کیا ایسے شہر میں رہنے والا (امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ) قلیل الحدیث عالم ہو سکتا ہے؟

علمائے حریمین سے نقل احادیث

پھر یہ بات بھی محقق ہے کہ کثرت سے حج و عمرہ کرنے کی وجہ سے ۷۰ مین شریفین کے علماء سے منقول احادیث بھی دوسرے شہروں کے علماء بکثرت نقل کرتے تھے۔ ان میں سے بعض علماء ایسے بھی تھے جنہوں نے چالیس چالیس حج و عمرے کئے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ انہی میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تھے جنہوں نے پچپن حج کئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلب حدیث کے لئے میں کوفہ میں کتنی مرتبہ گیا یہ بیان کرنے سے قاصر ہوں بہ نسبت دوسرے شہروں کے۔

عربی کی تدوین کوفہ اور بصرہ ہی میں ہوئی۔ اہل کوفہ نے تو عربی لہجوں کے انداز کو

محفوظ رکھنے کی بھی رعایت کی تاکہ اس سے کتاب وسنت اور وجوہ قراءت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور اہل بصرہ تو لہجوں کے اختیار کرنے پر بلند و ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ پس کوفہ مرکز حدیث فقہ اور لغت کے اعتبار سے پہچانا جانے لگا۔ اور جو چیز اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اہل کوفہ کو کتاب اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے وہ قراء سبعہ میں سے تین کا اہل کوفہ میں سے ہونا ہے یعنی عاصم بن ابی الجوزہ حمزہ بن حبیب اور علی بن حمزہ الکسائی اور قراء عشرہ میں سے خلف کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔

امام صاحب رحمہ اللہ کا حرمین میں قیام و آمد و رفت

محمد بن یوسف صالحی نے ”عقود الجمان“ میں تحریر کیا ہے کہ جب ابن ہبیرہ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نکالا تو وہ مکہ معظمہ چلے گئے اور یہ ۱۳۰ھ کی بات ہے اور خلافت عباسیہ کے قائم ہونے تک امام صاحب مکہ مکرمہ میں ہی رہے۔ امام ابو حنیفہ ابو جعفر کے زمانہ خلافت میں واپس کوفہ آئے اور ابو جعفر مسند خلافت پر ۱۳۷ھ کی ابتداء میں فائز ہوئے۔ پس اس طرح اس مرتبہ امام صاحب کا قیام مکہ مکرمہ میں سات سال رہا۔ علاوہ اس کے کہ وہ ہر سال حج کے لئے کوفہ سے مکہ آتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے حج کی تعداد پچپن کو پہنچتی ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ کے مشائخ کی تعداد

اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ حرمین شریفین میں حج و عمرہ کرنے والے دنیا بھر کی گھائیوں سے تشریف لاتے ہیں۔ جن میں مفسرین، محدثین، فقہاء اور مجتہدین سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کہ کتاب وسنت کے حصول علم میں بہت حریص تھے۔ انہوں نے اگر ہر سال صرف ۷۰ اکابرین سے اخذ حدیث کیا ہو تو ان کے مشائخ کی تعداد چار ہزار ہو جاتی ہے۔ علاوہ ان مشائخ کے جو کوفہ جیسے مرکز العلم میں موجود تھے اور علاوہ ان محدثین کے جن سے ان سات سالوں میں اخذ حدیث کیا ہوگا جن سالوں میں آپ نے مکہ میں قیام

کیا۔ ”عقود الجمان“ کے چوتھے باب میں صالحی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعض مشائخ کا تذکرہ کیا ہے جن کی تعداد اڑھائی سو سے زائد ہے۔ اور مصنف نے اس مقام پر حافظ ابن المزینی رحمہ اللہ کی کتاب ”تہذیب الکمال“ سے امام صاحب کے ۶۷ مشائخ کا تذکرہ کیا ہے۔ ۱۲ خ۔ (تعلیق تبیض الصحیفہ ص ۷۰ تا ۷۲)

تابعین اور تبع تابعین میں سے جن اکابرین سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے روایات نقل کی ہیں ان میں سے چند کے اسمائے گرامی نقل کئے جاتے ہیں۔ حافظ جمال الدین المزینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان حضرات سے روایات نقل کی ہیں: ① ابراہیم بن محمد بن المثنیٰ - ② اسماعیل بن عبد الملک بن صفیر - ③ جلد بن حکیم - ④ ابو ہند الحارث بن عبد الرحمن الہمدانی ⑤ حسن بن عبید اللہ ⑥ حکم بن عتیبہ ⑦ حماد بن ابی سلمان ⑧ خالد بن علقمہ ⑨ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ⑩ زبید الیامی ⑪ زیاد بن علاقہ ⑫ سعید بن مسروق الثوری ⑬ سلمہ بن کہیل ⑭ سماک بن حرب ⑮ ابی رۓہ شداد بن عبد الرحمن ⑯ شیبان بن عبد الرحمن النخوی ⑰ طاؤس بن کیسان ⑱ طریف بن سفیان السعدی ⑲ ابوسفیان طلحہ بن نافع ⑳ عاصم بن کلیب ㉑ عامر الشعمی ㉒ عبد اللہ بن ابی حبیبہ ㉓ عبد اللہ بن دینار ㉔ عبد الرحمن بن ہرمز الاعمرج ㉕ عبد العزیز بن رفیع ㉖ عبد الکریم ابی امیہ بن ابی الحارث ㉗ عبد الملک ابن عمیر ㉘ عدی بن ثابت الانصاری ㉙ عطاء بن ابی رباح ㉚ عطاء بن السائب ㉛ عطیہ بن سعد العونی ㉜ عکرمہ مولیٰ ابن عباس ㉝ علقمہ بن مرثد ㉞ علی بن الاقر ㉟ علی بن الحسن البراد ㊱ عمر بن دینار ㊲ عون بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ㊳ قابوس بن ابی ظلمیان ㊴ قاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود ㊵ قتادہ بن دعامہ ㊶ قیس بن مسلم الجدلی ㊷ محارب بن دثار ㊸ محمد بن الزبیر الحظلی ㊹ محمد بن السائب کلبی ㊺ ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ㊻ محمد بن قیس الہمدانی ㊼ محمد بن شہاب الزہری ㊽ محمد بن المنکدر ㊾ نخول بن رائد ㊿ مسلم البطين

۵۱) مسلم الملائی ۵۲) معن بن عبدالرحمن ۵۳) مقسم ۵۴) منصور بن المعتمر ۵۵) موسیٰ بن ابی عائشہ ۵۶) ناصح بن عبداللہ المحلمی ۵۷) نافع مولیٰ بن عمر ۵۸) ہشام بن عروہ ۵۹) ابی غسان الہیثم بن حبیب الصراف ۶۰) ولید بن سربیع المخزومی ۶۱) یحییٰ بن سعید الانصاری ۶۲) ابو حنیفہ یحییٰ بن عبداللہ الکندی ۶۳) یحییٰ بن عبداللہ الجابر ۶۴) یزید بن صہیب الفقیر ۶۵) یزید بن عبدالرحمن الکوفی ۶۶) یونس بن عبداللہ بن ابی فروہ ۶۷) ابواسحاق السبئی ۶۸) ابوبکر بن عبداللہ بن ابی الجہم ۶۹) ابو جناب الکلمی ۷۰) ابو حصین الاسدی ۷۱) ابوالثریر الکلی ۷۲) ابوالسوار یا ابوالسواد السلمی ۷۳) ابو عون الثقفی ۷۴) ابوفروہ الکجینی ۷۵) ابو معبد مولیٰ بن عباس ۷۶) ابو یعفر الراعی ۷۷) ابو یوسف -

فائدہ:

امام صاحب کے مذہب کے رائج اور قوی ہونے کی دلیل

راقم (مولانا عاشق الہی البرنی) کہتا ہے:

یہ چھ ہتر افراد ہیں جن کا ذکر حافظ ابن المزی نے رحمہ اللہ نے امام صاحب کے مشائخ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔

اصحاب حدیث و فقہ میں سے ان میں بڑے بڑے اکابرین تابعین ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان سے احادیث روایت کی ہیں اور ان سے علم حاصل کیا ہے۔ وہ احادیث کے راوی ہیں اور شاگرد ہیں حضرت علیٰ عبادلہ اربعہ، جابر بن سمرہ، جابر بن عبداللہ بن ابی اونی، حضرت عائشہ، زید بن ارقم، براء بن عازب، ابی الطفیل، ابی قتادہ، ابی سعید الخدری، سہل بن سعد، مسور بن مخرمہ، عدی بن حاتم، مغیرہ بن شعبہ، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے۔

ان میں بعض وہ حضرات ہیں جو کثرت سے احادیث نقل کرنے والوں کی حیثیت سے معروف و مشہور ہیں۔ خصوصاً حضرت ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس اور حضرت عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پس جو شخص روایت حدیث میں اس درجہ پر فائز

ہو کہ اس کے اور نبی ﷺ کے درمیان صرف ایک صحابی اور کبار تابعین میں سے ایک تابعی ہو وہ بھی ثقہ درجہ کا اور اس کو حدیث اس قدر کم واسطوں سے سند متصل کے ساتھ پہنچی ہو پھر اس نے اس پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہو، تو اس کا مذہب قوی ترین اور رائج ترین ہو گا نسبت اس شخص کے جس کو حدیث چار واسطوں یا اس سے بھی زائد واسطوں سے پہنچی ہو۔ اس حدیث کے اس تک پہنچنے میں واسطوں کی کثرت کی وجہ سے کبھی ضعف بھی آ جائے گا۔

غلط فہمی کا ازالہ

تعب ان لوگوں پر ہے جو منہ بھر کر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کا مدار روایات ضعیفہ پر ہے۔ ان روایات حدیث کو دیکھتے ہوئے جن کو اصحاب کتب حدیث نے امام صاحب کے زمانے کے کافی بعد روایت کیا ہے۔ ان میں سے ایک امام بخاری رحمہ اللہ ہیں جو امام صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے چوالیس سال بعد پیدا ہوئے اور کئی سال بعد انہوں نے اپنی کتاب بخاری تالیف کی۔ اسی طرح ان کے بعد جو اصحاب کتب حدیث ہوئے ہیں۔

پس اگر ان اکابر محدثین کے یہاں کوئی حدیث سند کے اعتبار سے امتداد زمانہ کی وجہ سے ضعیف قرار دی جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی ضعیف ہو۔ اور یہ بات اس شخص پر بالکل واضح ہوگی جو راہ سے بھٹکا ہوا نہ ہو۔

امام صاحب رحمہ اللہ کے اساتذہ کی عظمت

حاکم نے علوم حدیث کی تعریف میں انتالیسویں فصل کو ان الفاظ سے شروع کیا: یہ نوع تابعین و تبع تابعین میں سے مشرق و مغرب کے ان ائمہ ثقات کی پہچان کے بارے میں ہے جنہوں نے ذخیرہ احادیث کو یاد کرنے یا برکت حاصل کرنے کے لیے

جمع کیا۔ پھر انہوں نے محدثین حرین شریفین کا تذکرہ ایک صفحہ میں کیا۔ محدثین شام کا تذکرہ ایک صفحہ میں، محدثین یمن اور یمامہ کا تذکرہ نصف صفحہ میں اور پھر محدثین کوفہ کا تذکرہ شروع کیا اور ان کے نام چار صفحات میں ذکر کئے جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان مشائخ کو بیان کیا جن کو مرنی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور ان تلامذہ کا ذکر کیا جن کو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔

ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان مشائخ کا تذکرہ بطور فخر و اتقان کیا۔ مثلاً عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ۲۰۰ صحابہ سے ملاقات کی۔ عامر الشعمی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں ذہبی نے کہا کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر اساتذہ میں سے تھے۔ انہوں نے ۵۰۰ صحابہ سے ملاقات کی۔ اور ساک بن حرب انہوں نے ۸۰ صحابہ سے کسب فیض کیا۔ اور ابواسحاق السبئی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے ۳۸ صحابہ سے ملاقات کی۔ اور طاؤس کہ جنہوں نے ۵۰ صحابہ سے فیض حاصل کیا۔ اور محمد بن مسلم بن شہاب الزہری وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کی ایک کثیر جماعت سے احادیث روایت کی ہیں۔

آپ کے اساتذہ میں ربیعہ ایک ایسے استاد ہیں جن کے بارے میں مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وفات پر فرمایا: ”فقہ کی مٹھاس ہی ختم ہو گئی جب سے ربیعہ کا انتقال ہوا۔“ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں یہ اسماء بھی قابل ذکر ہیں۔ مولیٰ بن عمر محمد بن علی بن حسین الباقری، قتادہ بن دعامہ، ہشام بن عروہ اور یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہم اللہ جن کے بارے میں سعید بن عبد الرحمن الجمحی نے فرمایا: ”اگر زہری اور یحییٰ بن سعید نہ ہوتے تو احادیث کا بہت سا حصہ ضائع ہو جاتا۔“ ان کے علاوہ بھی بہت سے مشائخ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ پایا اور ان سے روایات نقل کیں۔ ۱۲ خ (تلیق ص ۸۶)

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرنے والوں کے اسماء گرامی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے اکابرین نے روایات حدیث نقل کی ہیں۔

جن میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں:

- ① ابراہیم بن طہمان ② ایض بن الاغر بن صباح المقری ③ اسباط بن محمد القرشی ④ اسحاق بن یوسف الارزق ⑤ اسعد بن عمر الجلی القاضی ⑥ اسماعیل بن یحییٰ الصیرفی ⑦ ایوب بن ہانی الجعفی ⑧ جارود بن یزید النیسابوری ⑨ جعفر بن عون ⑩ حارث بن نبہان ⑪ وجبان بن علی العززی ⑫ حسن بن زیاد اللؤلؤی ⑬ حسن بن فرات القزار ⑭ حسین بن حسن عطیہ العوفی ⑮ حفص بن عبدالرحمن البلخی القاضی ⑯ حکام بن سلم الرازی ⑰ ابو مطیع الحکم بن عبداللہ بن عبدالرحمن البلخی ⑱ حماد بن ابوحنیفہ ⑲ حمزہ بن حبیب الزیات ⑳ خارجه بن صعب الرحسی ㉑ داؤد بن نصیر الطائی ㉒ ابو ہذیل زفر بن ہذیل التیمی العنبری ㉓ زید بن حباب العکلی ㉔ سابق الرقی ㉕ سعد بن حلت قاضی شیراز ㉖ سعید بن ابی جهم القابوسی ㉗ سعید بن سلام بن ابی الہیفاء العطاء بصری ㉘ سلم بن سالم البلخی ㉙ سلیمان عمر نخعی ㉚ سہل بن مزاحم ㉛ شعیب بن اسحاق دمشقی ㉜ صباح بن محارب ㉝ صلت بن حجاج کوفی ㉞ ابو عاصم ㉟ ضحاک بن مخلد ㊱ عامر بن فرات ㊲ عائد بن حبیب ㊳ عباد بن عوام ㊴ عبداللہ بن مبارک ㊵ عبداللہ بن یزید مقری ㊶ ابو یحییٰ عبدالحمید بن عبدالرحمن حمانی ㊷ عبدالرزاق بن ہمام ㊸ عبدالعزیز بن خالد ترندی ㊹ عبدالکریم بن محمد جرجانی ㊺ عبدالحمید بن عبدالعزیز بن رواد ㊻ عبدالوارث بن سعید ㊼ عبید اللہ بن عمر الرقی ㊽ عبید اللہ بن موسیٰ ㊾ عتاب بن محمد بن شوذان ㊿ علی بن ظبیان کوفی قاضی ① علی بن عاصم واسطی ② علی بن مسہر ③ عمرو بن محمد العنقری ④ ابوقطن عمرو بن البیہشم القطنی ⑤ ابو نعیم الفضل بن دکین ⑥ فضل بن موسیٰ سینانی ⑦ قاسم بن حکم العرنی ⑧ قاسم بن معن المسعودی ⑨ قیس بن ربیع ⑩ محمد بن ابان عنبری کوفی ⑪ محمد بن بشر العیدی ⑫ محمد بن حسن بن آتش الصنعانی ⑬ محمد بن حسن الشیبانی ⑭ محمد بن خالد وھبی ⑮ محمد بن عبداللہ انصاری ⑯ محمد بن فضل بن عطیہ ⑰ محمد بن قاسم الاسدی ⑱ محمد بن سرق کوفی ⑲ محمد بن یزید واسطی ⑳ مروان بن سالم ㉑ مصعب بن مقدم ㉒ معانی بن عمران الموصلی ㉓ مکی بن

ابراہیم یحییٰ (۳۸) ابوسہل نصر بن عبدالکریم یحییٰ معروف بالصقیل (۳۹) نصر بن عبدالملک عتقی (۴۰)
 ابو غالب النضر بن عبداللہ الازدی (۴۱) نضر بن محمد المروزی (۴۲) نعمان بن عبدالسلام
 الاصہبانی (۴۳) نوح بن دراج القاضی (۴۴) ابو عصمہ نوح بن ابی مریم (۴۵) ہریم بن سفیان (۴۶)
 ہوزہ بن غلیفہ (۴۷) صیاح بن بسطام (۴۸) وکیع بن الجراح (۴۹) یحییٰ بن ایوب مصری (۵۰) یحییٰ بن
 نضر حاسب (۵۱) یحییٰ بن یمان (۵۲) یزید بن زریع (۵۳) یزید بن ہارون (۵۴) یونس بن بکیر (۵۵) ابو
 اسحاق الفزاری (۵۶) ابو حمزہ السکری (۵۷) ابوسعید الصاعانی (۵۸) ابوشہاب الحنات (۵۹) ابو مقاتل
 سمرقندی (۶۰) قاضی ابویوسف رحمہم اللہ تعالیٰ۔

فائدہ:

امام صاحب رحمہ اللہ کے تلامذہ کی کثرت

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اخذ روایات کرنے والوں کا احاطہ ممکن نہیں۔ جن لوگوں نے امام صاحب رحمہ اللہ سے روایات نقل کی ہیں۔ ان کی تعداد حکم بن عتبہ ابن ابی لیلیٰ، ابن شبرمہ، سفیان ثوری، شریک، حسن بن صالح، یحییٰ بن سعید ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، مالک بن انس، ابوسفیان، ابن عون، سلمان تیمی، ہشام دستوائی، سعید بن ابی عروبہ، معمر بن راشد، شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ وغیرہ ائمہ اسلام سے روایت نقل کرنے والوں سے بھی زائد ہے۔

ان میں سے کسی کے بھی اتنے شاگرد نہیں ہوئے جتنے امام صاحب رحمہ اللہ کے ہوئے ہیں۔ علماء و عوام جتنے امام صاحب رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کے علوم حدیث و مسائل مستنبطہ سے مستفید ہوئے ہیں کسی کے علوم سے اتنے مستفید نہیں ہوئے۔ امام صالحی نے ساٹھ صفحات میں امام صاحب رحمہ اللہ کے شاگردوں کے نام ذکر کئے ہیں۔

ابو حنیفہ کے شاگرد اپنے زمانے کے مشائخ شمار ہوتے تھے

شیخ علی بن سلطان محمد القاری نے اپنی کتاب ”مناقب الامام الاعظم“ میں امام

صاحب کے ۱۵۰ تلامذہ کے اسماء کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے کردری رحمہ اللہ کی کتاب سے مختصراً نقل کر دیا ہے اور امام کردری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ ۷۳۰ افراد امام صاحب کے شاگردوں میں ہیں جو اس زمانہ میں اپنے اپنے شہروں کے مشائخ شمار ہوتے ہیں اور انہی کے ذریعہ سے ہم تک وہ علوم پہنچے۔ (اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے) یہی وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے امام صاحب سے علم حاصل کر کے اس کو آفاق عالم میں مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو علم کونہ سے باہر نہ نکلتا۔ انسان کی قدر و منزلت اس کے شاگردوں ہی سے پہچانی جاتی ہے۔ اس حقیقت کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے جو انہوں نے امام لیث بن سعد مصری کے بارے میں فرمایا: ((اللیث افقہ من مالک الا ان اصحابہ لم یقوموا بہ رحمہم اللہ)) ”امام لیث رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ سے زیادہ فقیہ ہیں لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے علوم کو آگے منتقل نہیں کیا“ (ماخوذ از تعلیق ملخصاً ص ۸۸)

امام صاحب کے شاگردوں کے مختصر حالات مولانا عاشق الہی البرنی نے اپنی تعلیق میں ذکر کئے ہیں جو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے اس کا مطالعہ کرے۔ (۱۲خ)

امام صاحب کی تدوین مسائل میں احتیاط

مولانا عاشق الہی صاحب فرماتے ہیں:

اسد بن فرات نے فرمایا کہ امام صاحب کے مسائل کو ان کے جن تلامذہ نے مدون کیا وہ چالیس افراد کی ایک جماعت تھی۔ جن میں امام ابو یوسف زفر بن ہذیل داؤد طائی اسد بن عمرو یوسف بن خالد السمی اور یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ رحمہم اللہ۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو امام صاحب نے تیس سال املاء کرایا۔

امام صاحب اپنے مذہب کے مسائل مجتہدہ کو ان کی مجلس میں بطور مشورہ پیش کرتے ان کو تصحیح فرماتے کہ اللہ اور رسول کے لیے اس پر غور کرو۔ ایک ایک مسئلہ

ان کے سامنے پیش کرتے اور ان سے پوچھتے اس مسئلہ کے بارے میں تمہارے کیا دلائل ہیں۔ پھر اپنے دلائل پیش کرتے۔ بعض مرتبہ ایک مسئلہ پر ایک ایک ماہ تک بحث مباحثہ ہوتا رہتا۔ ان دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کے تمام پہلو منظر ہو کر سامنے آ جاتے۔ جب سب اہل علم اس مسئلہ پر چٹنگی سے قائم ہو جاتے تو امام محمد رحمہ اللہ اس کو اصول میں لکھ دیتے۔ پس جو مذہب اتنے علماء کے مشورے اور بحث و تمحیص کے بعد مدون ہوا ہو وہ زیادہ صحیح اور قابل اتباع ہے اور استقامت و راست روی کے زیادہ قریب ہے۔ اور دل اس کی طرف زیادہ مائل ہوگا اور سکون و اطمینان حاصل کرے گا۔ نسبت اس مذہب کے جو انفرادی حیثیت سے مدون وضع کیا گیا ہو۔

ضبط حدیث میں امام صاحب کا مقام بلند

(مولانا عاشق الہی) فرماتے ہیں: کسی شک کرنے والے کے لئے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ امام صاحب کا ضبط حدیث میں بھی بڑا مرتبہ ہے جس طرح کہ اللہ نے ان کو فقہ و اجتہاد میں بلند مرتبہ پر فائز کیا انہوں نے کبار تابعین اور ثقہ لوگوں سے روایات حاصل کیں اور آپ سے ایسے حفاظ حدیث نے ان روایات کو سیکھا اور نقل کیا جن کا شمار کثرت سے حدیث نقل کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اور جن کی محدثین اقتداء کرتے ہیں۔ علماء اسماء الرجال کے یہاں یہ لوگ معروف و مشہور ہیں۔

محدثین کا امام صاحب پر اعتماد

ان لوگوں کی رائے کے برخلاف جو یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو علم حدیث میں زیادہ مہارت نہیں تھی یا یہ کہ وہ اس علم میں یتیم و مسکین تھے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ان بے تکلی ہانکنے والے حاسدین اور بغض رکھنے والوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لئے کہ نہ تو انہوں نے اسماء الرجال پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اور ائمہ کبار نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو تعریفی کلمات کہے ہیں نہ ان کو ملاحظہ کیا

ہے۔ نہ اس بات کی طرف التفات کیا ہے کہ محدثین امام صاحب کے قول کو اختیار کر کے اس پر فتاویٰ دیتے ہیں۔

اگر امام صاحب رحمہ اللہ کا مذہب صرف ان کی مختصر رائے ہوتی جیسا کہ ان حضرات کا خیال ہے تو کعب بن الجراح رحمہ اللہ اور یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ جیسے عظیم محدثین ان کے قول پر فتویٰ نہ دیتے۔

یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، بکے خفی ہیں ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ اپنے رسالہ ”معرفة الرواة المتكلم فيهم بمالا يوجب الرد“ میں تحریر فرماتے ہیں۔ اور ”ابن معین“ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دس لاکھ احادیث اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا وہ حدیث جس کو ابن معین نہ جانتے ہوں وہ حدیث نہیں ہے اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہے۔ اور عجل فرماتے ہیں یحییٰ بن معین سے زیادہ احادیث کو پہچاننے والا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ (دیکھئے ترجمہ ابن معین تہذیب التہذیب)

پس اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عالم بالحدیث نہیں تھے اور ایسے فقہ کے حامل تھے جو کتاب و سنت سے ماخوذ نہ ہو تو پھر یحییٰ بن معین جیسا امام جلیل ان کی تقلید نہ کرتا۔

امام صاحب رحمہ اللہ کبار محدثین میں سے ہیں

ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے ”کہ وہ علم حدیث میں کبار مجتہدین میں سے ہیں۔ محدثین ان کے مذہب پر اعتمادو بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے رد و قبول کا اعتبار ہے۔“

صالحی دمشقی شافعی رحمہ اللہ ”عقود الجمال“ میں رقم طراز ہیں: ”جان لو! کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کبار حفاظ حدیث میں سے ہیں۔“ اور یہ بات تو پیچھے گزر چکی ہے کہ انہوں نے چار ہزار مشائخ تابعین وغیرہ سے اخذ حدیث کیا ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ سے بکثرت روایات منقول نہ ہونے کی وجہ

حافظ ابو عبد اللہ ذہبی جو بڑے درجہ کے ناقد ہیں انہوں نے اپنی کتاب ”المجتمع“ میں (طبقات الحفاظ من المحدثين) میں امام صاحب کو شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی کوششیں کامیاب ہیں۔ اگر ان کو اخذ حدیث کا اہتمام نہ ہوتا تو وہ اس قدر مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دلائل سے مسائل کا استنباط کیا۔ ان سے کثرت روایات نقل نہ ہونے کی وجہ علم حدیث سے ان کی بے توجہی نہیں جیسا کہ بعض ان لوگوں کا خیال ہے جو ان سے حسد رکھتے ہیں۔ اگرچہ امام صاحب رحمہ اللہ وسیع الحافظہ ہیں لیکن ان سے قلت روایات کی دو وجہیں ہیں۔

پہلی وجہ: ان کا دلائل کے ذریعہ احادیث سے مسائل کے استنباط میں مشغول ہونا۔ جیسا کہ اجلاء صحابہ ابو بکر و عمر رحمہما اللہ سے روایات قلیل نقل ہیں۔ ان کے ان روایات کے عملی نفاذ میں مشغول ہونے کی وجہ سے باوجودیکہ ان کو دوسروں کی نسبت روایات زیادہ یاد تھیں۔

اسی طرح امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ سے بھی روایات کم منقول ہیں بنسبت ان کی مسوع روایات کے کیونکہ یہ بھی مسائل کے استخراج میں مشغول تھے۔

دوسری وجہ: یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ اپنی خوب محفوظ روایات ہی کو نقل کرتے تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ابو یوسف سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کوئی حدیث نقل کرے جب تک کہ جس سے اس نے حدیث سنی ہے اس وقت سے اور جب نقل کر رہا ہے اس وقت تک ہر بات کا اس کو استحضار نہ ہو۔

کبار محدثین امام صاحب رحمہ اللہ سے روایات نقل کرتے ہیں
امام صاحب کی فضیلت کے لئے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ان سے ان کبار محدثین

نے روایات نقل کی ہیں۔ ابراہیم بن طہمان، اسباط بن محمد، اسحاق بن یوسف الارزق، حفص بن عبدالرحمن، حمزہ الزیات، زفر بن ہذیل، عبداللہ بن مبارک، سفیان ثوری، حفص بن غیاث، حسن بن صالح، عبدالرزاق بن ہمام صاحب المصنف، علی بن مسہر، فضل بن دکین، کعب بن الجراح، یزید بن زریع، یزید بن ہارون، معافی بن عمران، قاضی ابو یوسف، محمد بن حسن الشیبانی، مکی بن ابراہیم، ضحاک بن مخلد، محمد بن عبداللہ الانصاری رحمہ اللہ۔ اور مکی بن ابراہیم، ضحاک بن مخلد اور محمد بن عبداللہ انصاری۔ ان تین سے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں بیس ثلاثیات ذکر کی ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی ثلاثیات امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ یا ان کے شاگردوں سے منقول ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی ”لامع الدراری“ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں: ”بخاری شریف میں ۲۲ حدیثیں ثلاثیات ہیں۔ اور وہ لوگ اہتمام کے ساتھ ثلاثیات بخاری کو شمار کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ان میں سے بیس ایسی ہیں جو امام صاحب کے شاگردوں یا ان کے شاگردوں کے واسطے سے امام بخاری نے نقل کی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے گیارہ روایات انہوں نے مکی بن ابراہیم سے نقل کی ہیں اور وہ یہ ہیں: پہلی چار، چھٹی، ساتویں، گیارہویں بارہویں، چودھویں، سترہویں، اور انیسویں۔ ان میں سے چھ امام بخاری نے ابوعاصم بن بیل، ضحاک بن مخلد کے واسطے سے نقل کی ہیں اور یہ امام صاحب کے تلامذہ میں سے ہیں ان کی مرویات بھی ثلاثیات میں سے ہیں جو یہ ہیں۔ پانچویں، آٹھویں، پندرہویں، اٹھارہویں اور اکیسویں۔ اور ثلاثیات میں سے انہوں نے تین کی تخریج محمد بن عبداللہ انصاری سے کی ہے۔ خطیب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ امام زفر رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے شاگرد تھے ان سے جو ثلاثیات بخاری نے نقل کی ہیں وہ یہ ہیں۔ دسویں، سولہویں اور بیسویں۔ اب صرف دو باقی رہیں ایک تیرہویں، اس کی تخریج عصام بن خالد ہصمی سے کی اور دوسری بائیسویں اس کی تخریج خلاد بن یحییٰ کوفی سے کیا ہے۔ (دیکھیے پانچواں فائدہ لامع الدراری)

امام صاحب رحمہ اللہ حماد بن ابی سلیمان کی صحبت میں

زفر بن ہذیل فرماتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ کہتے سنا: میں نے علم کلام کو بہت محنت سے حاصل کیا یہاں تک کہ لوگوں کی نظروں میں اس علم میں ممتاز ہو گیا۔ ایک روز ہم حماد بن ابی سلیمان کی مجلس کے قریب بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق سنت دینا چاہتا ہے کیسے طلاق دے؟ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں تھا میں نے اس سے کہا حماد سے پوچھو پھر جو وہ جواب دیں مجھے بھی بتانا۔

اس نے حماد سے سوال کیا انہوں نے کہا اس کو ایسے طہر کے زمانہ میں طلاق دے جس میں اس نے اس سے وطی نہ کی ہو پھر اس کو چھوڑ دے کہ دو حیض کا زمانہ مزید گزر جائے پھر جب وہ پاک ہو کر غسل کر لے گی تو دوسرے سے اس کو نکاح حلال ہوگا۔ اس عورت نے واپس آ کر مجھے یہ بات بتائی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا علم کلام میں مشغول ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اور میں اسی وقت امام حماد کی مجلس میں جا بیٹھا۔ میں ان کے ذکر کردہ مسائل کو سنتا اور یاد کر لیتا حتیٰ کہ اگلے دن جب وہ ان مسائل کو دہراتے تو ان کے اکثر شاگرد غلطی کرتے اور مجھے وہ خوب یاد ہوتے۔ پس امام حماد رحمہ اللہ نے کہا میری مجلس میں میرے بالکل سامنے سوائے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کوئی نہ بیٹھا کرے۔ میں ان کی صحبت میں دس سال رہا۔ پھر ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنی الگ مجلس منعقد کروں۔ میں اس خیال سے عشاء کے وقت نکلا لیکن جب مسجد میں داخل ہوا تو میرے دل نے حماد کی مجلس کو ترک کرنا پسند نہیں کیا میں نے اپنے خیال فاسد کو ترک کیا اور حماد کی مجلس میں شریک ہو گیا۔

اسی رات امام حماد کے قریبی عزیز کے بصرہ میں فوت ہونے کی اطلاع آئی جس نے کچھ مال چھوڑا تھا اور امام حماد کے سوا اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کی عدم موجودگی میں ان کی جگہ بیٹھوں یہاں تک کہ وہ جا کر واپس

آجائیں۔ ان کی عدم موجودگی میں لوگوں نے مجھ سے ایسے مسائل پوچھے جو میں نے ان سے نہیں سنے تھے۔ میں ان کو جواب دیتا اور اس جواب کو اپنے پاس بھی لکھ کر رکھ لیتا۔ امام حماد رحمہ اللہ دو ماہ تک واپس نہ آئے۔ پھر جب واپس آئے تو میں نے ان کی خدمت میں وہ مسائل پیش کئے جو تقریباً ساٹھ تھے۔ انہوں نے چالیس کے جواب میں میری موافقت کی اور بیس میں مخالفت کی کہ وہ غلط ہیں اس وقت میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ان کی موت تک ان سے علم حاصل کرتا رہوں گا۔ پس میں ان سے جدا نہ ہوا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۳۳)

خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں بصرہ آیا تو میرا خیال تھا کہ مجھ سے جو بھی سوال کیا جائے گا میرے پاس اس کا جواب ہوگا، پس مجھ سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کیے گئے کہ ان کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اس وقت میں نے دل میں یہ پختہ خیال بٹھا لیا کہ میں موت تک حماد کو نہیں چھوڑوں گا پس میں ان کی صحبت میں بارہ سال رہا۔

ابوبیکی حمانی فرماتے ہیں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے کہا: کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا جیسے میں حضور ﷺ کی قبر مبارک کھود رہا ہوں۔ جب میں بصرہ آیا تو میں نے ایک شخص سے کہا امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے اس کی تعبیر پوچھو۔ اس کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا: یہ شخص رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو تحقیق کے ساتھ بیان کرے گا۔ (تاریخ بغداد ج ۳ ص ۳۲۷)

امام صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول

ابودوب محمد بن مزاحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعہ میری اعانت نہ فرماتے تو میں بھی ایک عام آدمی ہوتا۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۲۷)

امام صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں قاسم بن معن رحمہ اللہ کی رائے
 حجر بن عبد الجبار فرماتے ہیں: قاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن
 مسعود رحمہ اللہ سے کہا گیا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے غلاموں میں شمار
 کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا: کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ نافع کسی کی مجلس نہیں۔ قاسم
 نے اس سے کہا: آؤ میرے ساتھ! جب وہ امام صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں آیا تو انہی کا
 ہو رہا۔ اور بولا: میں نے تو ایسی مجلس دیکھی ہی نہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک متقی اور سخی
 آدمی تھے۔ (ایضاً)

امام صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول
 احمد بن صباغ فرماتے ہیں میں نے محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے
 تھے: کہ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا ہے؟
 فرمایا: ہاں! وہ ایسے شخص تھے کہ اگر تم ان سے اس پیالہ کے بارے میں کلام کرو
 کہ یہ سونے کا ہے تو وہ اس کو دلاکل سے سونے کا ثابت کر دیں گے۔ (تاریخ بغداد)
 امام صاحب رحمہ اللہ کے انتقال پر ابن جریج کی کیفیت غم
 ابن عبادہ فرماتے ہیں: کہ میں ۱۵۰ھ میں ابن جریج کی خدمت میں حاضر تھا کہ
 امام صاحب رحمہ اللہ کی موت کی خبر آئی۔ آپ نے ”انسا لله وانا الیہ راجعون“
 پڑھا اور بیمار پڑ گئے۔ اور فرماتے: ہائے افسوس! علم رخصت ہوا۔
 (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۳۸)

سب سے بڑا فقیہ

ضرار بن مرد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یزید بن ہارون رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کون زیادہ
 فقیہ ہے ابو حنیفہ یا سفیان؟
 فرمایا: سفیان حدیث کو زیادہ یاد رکھنے والے ہیں اور ابو حنیفہ زیادہ فقیہ ہیں۔
 (تاریخ بغداد)

ابو وہب بن مزاحم فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے: میں نے سب سے بڑا عبادت گزار انسان دیکھا، سب سے بڑا متقی انسان دیکھا ہے، سب سے بڑا عالم دیکھا ہے اور سب سے بڑا فقیہ دیکھا۔

پس سب سے بڑا عبادت گزار، وہ عبدالعزیز بن رواد ہیں۔ سب سے بڑا متقی، وہ فضیل بن عیاض ہیں۔ سب سے بڑا عالم، وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ہیں، اور سب سے بڑا فقیہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، میں نے فقہ میں ان جیسا نہیں دیکھا۔

ابو وزیر المرزوی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا: جب سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی مسئلہ میں مجتمع ہو جائیں تو پھر ان سے بڑا فتویٰ کس کا ہو سکتا ہے؟ علی بن حسن ابن شفیق فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ جب کسی مسئلہ میں یہ دونوں (امام ثوری اور ابو حنیفہ) جمع ہو جائیں تو وہی میرا مسلک ہے۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۴۳)

فائدہ: ابن مبارک رحمہ اللہ سے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ فقہ میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں اور حدیث میں سفیان ثوری ہیں۔ پس جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو جو ان کی مخالفت کرے مجھے اس کی پروا نہیں۔

بشر بن الحارث فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن داؤد سے سنا، فرماتے تھے: جب مجھے آثار و احادیث کی تلاش ہو تو سفیان ثوری کا قول دیکھتا ہوں اور جب ان سے مسائل کی تحقیق مقصود ہو تو ابو حنیفہ کا قول دیکھتا ہوں۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۴۳)

محمد بن بشیر فرماتے ہیں: کبھی میں امام ابو حنیفہ کی خدمت میں آتا اور کبھی سفیان کی خدمت میں، ابو حنیفہ کے پاس آ کر ایک بات کہتا، وہ پوچھتے یہ کہاں سے لی؟ میں کہتا: سفیان رحمہ اللہ سے، فرماتے! تو نے ایسے شخص سے یہ بات نقل کی ہے اگر علقمہ اور اسود بھی موجود ہوتے تو ان کے محتاج ہوتے۔ کبھی سفیان کے پاس آتا اور کوئی بات کہتا، وہ کہتے یہ کہاں سے لی؟ میں کہتا: ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ تو فرماتے: تو نے روئے زمین پر سب سے زیادہ فقیہ

سے یہ بات حاصل کی۔ (ایضاً)

یحییٰ بن زیان فرماتے ہیں مجھ سے امام ابوحنیفہ نے کہا اے اہل بصرہ تم ہم سے زیادہ پرہیزگار ہو اور ہم تم سے زیادہ فقیہ۔ (ایضاً)
ابونعیم فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ مسائل کی بہت زیادہ تحقیق کیا کرتے تھے۔ (ایضاً)

امام صاحب رحمہ اللہ کی حفظ سنن

محمد بن سعد کا تب فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن داؤد کو کہتے سنا کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے لئے دعا کریں۔ اور پھر انہوں نے ان سے منقول احادیث اور فقہ کا ذکر کیا۔ (تاریخ بغداد)

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے
احمد بن محمد بلخی فرماتے ہیں: شداد بن حکیم نے فرمایا: میں نے ابوحنیفہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ (ایضاً)

اسماعیل بن محمد الفارسی فرماتے ہیں: میں نے یحییٰ ابراہیم کو امام ابوحنیفہ کے بارے میں کہتے سنا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔

یحییٰ بن القطان رحمہ اللہ امام صاحب رحمہ اللہ کے اکثر اقوال پر فتویٰ دیتے تھے
یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے بہتر کسی کا قول ہم نے نہیں سنا اور ہم اکثر ان کے اقوال ہی پر عمل کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید کوفیین کے قول پر فتویٰ دیتے اور ان کے اقوال میں سے امام صاحب کے قول کو منتخب فرماتے۔ اور ان کے اصحاب میں سے ان کی رائے کا اتباع کرتے۔

فقہ میں لوگ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے خوشہ چیں ہیں

ربیع فرماتے ہیں: میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو کہتے سنا: لوگ فقہ میں ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے خوشہ چیں ہیں۔ حرمہ بن یحییٰ فرماتے ہیں میں نے محمد بن ادریس شافعی کو کہتے سنا، لوگ ان پانچ کے محتاج ہیں۔ جو یہ چاہے کہ فقہ میں تبحر حاصل کرے وہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا محتاج ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے امام شافعی سے یہ بھی سنا ہے کہ ابوحنیفہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو دینی سمجھ دی گئی ہے۔

اور جو شخص شعر میں مہارت حاصل کرنا چاہے تو وہ زہیر بن ابی سلمیٰ کا محتاج ہے۔ جو سیرت و تاریخ میں مہارت کا خواہش مند ہو وہ علی بن محمد بن اسحاق کا محتاج ہے۔ جو علم نحو میں مہارت کا خواہش مند ہو تو وہ کسائی کا محتاج ہے۔ اور جو علم تفسیر میں گہری نظر رکھنا چاہتا ہے وہ مقاتل بن سلیمان کا محتاج ہے۔ (تاریخ بغداد ج ۳ ص ۳۲۶)

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی عبادت گزاری

اسد بن عمیر فرماتے ہیں: امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور اکثر راتوں میں وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت کر لیتے۔ ان کے پڑوسی ان کے رونے کی آواز سنتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ بات بھی خوب یاد ہے کہ جس جگہ ان کا انتقال ہوا وہاں انہوں نے ستر ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا۔

فائدہ: اس آخری بات کے نقل میں غلطی ہوئی ہے۔ کیونکہ ان کی رہائش کوفہ میں تھی تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے جس جگہ ان کا انتقال ہوا انہوں نے وہاں ستر ہزار قرآن پاک ختم کیے جبکہ ان کو قید میں کچھ عرصہ ہی رکھا گیا (جہاں ان کا انتقال ہوا)۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس بات کو خطیب بغدادی کی طرف منسوب کیا ہے جبکہ تاریخ بغداد میں سات ہزار کا تذکرہ ہے۔ دیکھئے تاریخ بغدادی ج ۳ ص ۳۵۴۔ صحیح بات وہ ہے جو

”موفق“ میں ہے کہ جس گھر سے امام صاحب کو قید کیا گیا تھا اس میں قید ہونے سے قبل امام صاحب نے سات ہزار قرآن ختم کئے تھے (ص ۲۰۷) اور یہ کچھ بعید بات نہیں اس لئے کہ ابو بکر بن عیاش سے منقول ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بہن رونے لگی آپ نے فرمایا تم کیوں روتی ہو؟ اس کو نے کی طرف دیکھو میں نے اس میں اٹھارہ ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ (غایۃ النہایۃ: ج ۱ ص ۳۳۷)

حماد بن ابو حنیفہ فرماتے ہیں: جب میرے والد کا انتقال ہوا تو حسن بن عمارۃ نے ان کو غسل دینے کی اجازت چاہی۔ جس کو میں نے قبول کیا۔ جب انہوں نے ان کو غسل دیا تو فرمایا: ”اللہ آپ پر رحم کرے اور آپ کی بخشش کرے“ آپ نے تیس سال سے افطار نہیں کیا (یعنی مسلسل روزے رکھے) اور چالیس سال سے رات کو تکیہ کا سہارا نہیں لیا اور کیا اب آپ تھک گئے ہیں۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۵۴)

ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو دوسرے سے کہتے سنا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں رات بھر سوتے نہیں۔ ابو حنیفہ بولے خدا کے لیے ایسی بات نہ کہو جو میں نہ کر سکوں اور آپ رات بھر نماز و دعا میں گزر گزاتے ہوئے مشغول رہتے تھے۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۵۵)

حفص بن عبدالرحمن فرماتے ہیں میں نے مسعر بن کدام کو کہتے سنا، میں ایک رات مسجد میں داخل ہوا میں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، مجھے اس کی قراءت اچھی لگی، اس نے قرآن کی ایک منزل تلاوت کی، میرا خیال تھا کہ وہ اب رکوع کرے گا پھر اس نے تہائی قرآن پڑھائی پھر نصف وہ قرآن پڑھتا ہی رہا حتیٰ کہ اس نے ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ (تاریخ بغداد)

خارجہ بن مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک رکعت میں چار ائمہ نے قرآن ختم کیا:

X عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ X تمیم الداری رضی اللہ عنہ

☆ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ☆ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ - (تاریخ بغداد)
 یحییٰ بن نصر فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر رمضان المبارک میں ساٹھ
 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ (تاریخ بغداد ج ۳ ص ۳۵۱)

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ

حبان بن موسیٰ فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے سنا کہ جب
 میں کوفہ آیا تو لوگوں سے پوچھا: یہاں رہنے والوں میں سب سے متقی کون ہے؟ تو
 انہوں نے کہا: ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ (ایضاً ص ۳۵۸)

سلیمان بن ربیع فرماتے ہیں: میں نے کمی بن ابراہیم کو کہتے سنا: میں کو فیوں میں
 بیٹھا ہوں میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ متقی ان میں کوئی نہیں دیکھا۔ (ایضاً)

علی بن حفص بزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حفص بن عبدالرحمن، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے
 کاروباری شریک تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لئے کچھ سامان تیار کیا اور ان کو
 بیچنے کے لئے بھیج دیا اور سمجھا دیا کہ کپڑے میں فلاں فلاں عیب ہے جب اس کو بیچو تو
 عیب بیان کر دینا، حفص نے جب سامان فروخت کیا تو جس کو سامان بیچا تھا اسے عیب
 بتانا بھول گئے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس سے جتنی رقم
 حاصل ہوئی تھی انہوں نے سب صدقہ کر دی۔ (تاریخ بغداد)

حامد بن آدم فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے سنا میں نے
 کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ متقی نہیں دیکھا۔ (ایضاً)

عہدہ قضا سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انکار

عبید اللہ بن عمرو الرقی فرماتے ہیں: ابن ابی ہبیرہ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوفہ کے
 عہدہ قضا پر فائز ہونے کے لئے کہا تو آپ نے انکار کر دیا۔

فائدہ: خطیب بغدادی نے اس پر اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اس نے ان کو

ایک سو دس کوڑے مارے روزانہ دس کوڑے مارے جاتے تھے لیکن آپ انکار ہی کرتے رہے حتیٰ کہ اس نے آپ کو رہا کر دیا۔ صالحی نے ”عقود الجمان“ میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ ابن ہبیرہ نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کیا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے کہ تو میری امت کے ایک شخص کو بلا جرم مارتا ہے اور اس کو دھکا دیتا ہے۔ پس اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ (عقود الجمان ص ۲۱۲)

جب امام صاحب کو چھوڑ دیا گیا تو آپ نے فرمایا میری والدہ (کی جدائی) کا غم میرے لئے اس مارے سے زیادہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب کبھی امام اعظم کے ان کوڑوں کا ذکر کرتے تو رو پڑتے تھے۔ جبکہ خلق قرآن کے مسئلہ میں خود ان پر کوڑے برسائے گئے۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۷۷)

صالحی نے ذکر کیا ہے کہ ابن ہبیرہ نے دو مرتبہ امام صاحب پر کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ جب ان کو بیت المال کا متولی بنانا چاہا دوسری مرتبہ جب ان کو کوفہ کے عہدہ قضا پر فائز کرنا چاہا۔

صالحی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ابن ہبیرہ نے ان کو رہا کر دیا تو آپ مکہ معظمہ چلے گئے اور یہ ۱۳۰ھ تھا مکہ میں اس وقت تک رہے کہ خلافت عباسیہ قائم ہو گئی اور خلیفہ ابن جعفر منصور کے زمانے میں واپس کوفہ آئے۔ پھر ۱۵۰ھ میں آپ کو دوبارہ مارا گیا اور قید کر دیا گیا یہی آپ کا سن وفات ہے قید خانہ میں ہی آپ کا زہر دیے جانے کی وجہ سے انتقال ہوا۔ جس کا تذکرہ ہم ان شاء اللہ کریں گے۔ (تعلیق تبیض الصحیفہ ص ۱۱۹)

امام صاحب کا خلیفہ منصور کے وظیفہ سے انکار

مغیث بن بدیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خارجہ بن مصعب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ منصور نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے دس ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا اور ان کو بلوایا کہ وہ آکر لے لیں۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ یہ ایسا شخص ہے اگر میں اس کو یہ رقم لوٹاؤں تو مجھ پر غصہ ہوگا اور اگر قبول کر لوں تو میرے دینی معاملات میں ایسی دخل اندازی کرے گا جو مجھے پسند

نہیں۔ میں نے کہا یہ رقم اس کی نظر میں کافی زیادہ ہے پس جب وہ آپ کو یہ رقم لینے کے لئے بلائے تو آپ یہ کہہ دیجئے گا کہ میں امیر المؤمنین سے اس کا متمنی نہیں ہوں۔

جب اس نے آپ کو رقم دینے کے لئے بلایا تو آپ نے یہی جواب دے دیا جب اس کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو اس نے آپ کا وظیفہ بند کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاملات میں میرے علاوہ کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے۔

(تاریخ بغداد)

یزید بن ہارون اور محمد بن عبد اللہ انصاری کی رائے

محمد بن عبد الملک دقیق فرماتے ہیں میں نے یزید بن ہارون کو کہتے سنا میں بہت لوگوں سے ملا ہوں لیکن میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عقلمند زیادہ افضل اور زیادہ متقی کوئی نہیں دیکھا۔ (ایضاً)

محمد بن عبد اللہ انصاری فرماتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل، ان کی بول چال ارادے اور آمد و رفت سے ظاہر ہوتی تھی۔

ہم مجلسوں کا اکرام

حجر بن عبد الجبار فرماتے ہیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ مجالس اور اصحاب مجلس کا اکرام کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ (تاریخ بغداد)

فراست امام

اسماعیل ابو حنیفہ کے پوتے بیان فرماتے ہیں کہ ایک شیعہ طحان نامی ہمارا بڑا بڑا تھا اس نے دو خچر پالے ہوئے تھے ایک کا نام ابو بکر اور دوسرے کا عمر رکھا ہوا تھا۔ ایک رات ان میں سے ایک خچر نے اسے ٹکریں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ جب یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا تحقیق کرو اس کو کون سے خچر نے ٹکریں مار کر ہلاک کیا ہے، میرا خیال ہے وہ عمر نامی خچر ہوگا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ایسا ہی تھا۔

معاندین سے حسن سلوک

سلیمان بن ابی شیخ فرماتے ہیں مسادر الوراق نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں چند نازیبا شعر کہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس سے ملاقات ہوگئی تو فرمایا کہ تم تمہاری ہجو کرتے ہو، ہم تم سے خوش ہیں اور اس کو کچھ دراہم بطور ہدیہ بھیجے تو اس نے یہ شعر کہے

اذا ما اهل مصر باد هونا ❊ بداهية من الفتيا لطيفة
اتينا هم بمقياس صحيح ❊ صليب من طراز ابى حنيفة
اذا سمع الفقيه به حواه ❊ واثبه بحبر فى صحيفه
”جب اہل شہر نے ان کے فتوؤں کی لطافتوں کو ہلکا سمجھا۔ تو ہم نے ابو حنیفہ کے طرز کو پر کھنے کے لیے انہیں ایک صحیح پیمانہ دیا۔ اور جب فقیہ نے اس کو سنا تو اس کو اپنی کاپی میں محفوظ کر لیا۔“

فائدہ: موفق کی نے بعض الفاظ کے تغیر کے ساتھ ان اشعار کو مدح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں ذکر کیا ہے اور دو شعروں کا اضافہ بھی کیا ہے جو یہ ہیں:

اذا ما الناس يوما قايسونا ❊ بآبدة من الفتيا طريقه
اتينا هم بمقياس صليب ❊ مصيب من طراز ابى حنيفة
اذا سمع الفقيه بها وعاما ❊ اثبتها بحبر فى صحيفه
بأشار اتيته عن سراة ❊ من الماضين مسنده عريفه
فاوضح للخلائق مشكلات ❊ نوازل كن قد تركت وقيفه
”ایک دن جب لوگوں نے کسی فتویٰ کے متعلق ہم سے مناظرہ کیا۔ تو ہم نے امام ابو حنیفہ کے طرز پر دلائل دینا شروع کر دیا۔ تو فقیہ نے ان کی قدر کی اور یعنی اپنی کاپیوں میں لکھ لئے۔ لوگوں کے ایسے مشکل مسائل کو حل کر لیا جن کو وہ مشکل سمجھ کر ترک و

موقوف کر دیتے تھے۔“

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ابو حنیفہ کے بارے میں تعریفی کلمات

محمد بن احمد بن یعقوب فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے مجھے بعض اشعار سنائے جو عبداللہ بن مبارک نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں کہے تھے:

رأيت ابا حنيفة كل يوم * يزيد نبالة ويزيد خيرا
وينطق بالصواب ويصطفيه * اذا ما قال اهل الجور جورا
يقايس من يقائسه بلب * فمن ذا يجعلون له نظيرا
كفانا فقد حماد وكانت * مصيبتنا به امرا كبيرا
فرد شماتة الأعداء عنا * وابدى بعده علما كثيرا
رأيت ابا حنيفة حين يوتى * ويطلب علمه بحرا عزيزا
اذا ما المشكلات تدافعتها * رجال العلم كان بها بصيرا

”میں دیکھتا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرافت اور خیر دن بدن بڑھتی ہی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ درست بات ہی کہتے ہیں جبکہ ظالمین غلط سلط کہتے ہیں۔ جب کسی کو دیکھنا ہو تو امام صاحب کی عقل پر پرکھ کر دیکھ لو ان جیسی مثال کہاں مل سکتی ہے۔ جب سے ہم نے حماد کو کھویا ہے ہمارے لئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافی ہیں، حماد کا رخصت ہونا ہمارے لئے بڑی مصیبت تھی۔ آپ نے ہم سے دشمنوں کے اعتراضات دور کیے اور حماد کے بعد آپ نے علم کثیر کو ظاہر کیا۔ میں نے امام صاحب کے علم کو بحر زار پایا۔ جب ان سے علم کے متعلق سوال کیا گیا۔ دوسرے علماء مشکل مسائل سے پہلو تہی کرتے اور امام صاحب کے سامنے وہ عیاں ہوتے۔“

(تاریخ بغداد)

ابن ابی داؤد کی رائے

ابن ابی داؤد فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لوگ دو قسم کے ہیں ایک ان کے مرتبہ سے ناواقف، دوسرے ان سے حسد کرنے والے۔
ابن ابی داؤد نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے حسد رکھتے ہیں یا ان کے مرتبہ سے ناواقف ہیں میرے نزدیک ان کے مرتبہ سے ناواقف ان کے حابدین سے بہتر ہیں۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۶۷)

اپنے حاسدین کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے اشعار عبدالعزیز بن ابی داؤد فرماتے ہیں کہ کبھی ایک مرتبہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت امام ابوحنیفہ سر نیچے کیے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر پوچھا تم کہاں سے آرہے ہو؟ میں نے عرض کیا: شریک کے پاس سے میرا خیال ہے ان کو شریک کی کوئی ایسی نازیبا بات جو اس نے ان کے بارے میں کہی تھی پہنچ چکی تھی۔ آپ نے سراٹھایا اور یہ اشعار کہے۔

ان يحسبوني فاني غير لائمهم ❊ قبل من الناس اهل الفضل قد حسلوا
فدام لي ولهم مابي وما بهم ❊ ومات اكثرنا غيضا بما يجد
”اگر وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں تب بھی میں ان کو ملامت نہیں کرتا
مجھ سے پہلے بہت سے ایسے اہل فضل گزر چکے ہیں جن سے حسد
کیا گیا پس جو میرے لئے ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہوگی جو ان کے
لئے ہے وہ ان کے لئے ہوگی بہت سے لوگ اپنی حسد کی آگ
میں جل کر خود ہی مر گئے۔“

ابن ابی عائشہ کا قول

قاضی رائے احمد بن عبد فرماتے ہیں میرے والد ایک مرتبہ ابن ابی عائشہ کی

خدمت میں حاضر تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر چل نکلا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا ہم کو ابو حنیفہ کی بات کی ضرورت نہیں۔ ابن ابی عاتشہ بولے کہ اگر تم ان کو دیکھ لو تو انہیں چاہئے لگو۔ تمہاری اور ان کی مثال میں میں یہ شعر ہی پڑھ سکتا ہوں:

اقلوا علیہ ویلکم لا ابالکم * من اللوم او سلوا المكان الذی سدا
”تمہارا ناس ہو تم یا تو امام صاحب کا کوئی قائم مقام لاؤ یا امام پر
ملامت کم کرو۔“

ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا طریقہ اجتہاد و استنباط

یحییٰ بن ضریس فرماتے ہیں سفیان کے پاس ایک شخص آیا اس نے ان سے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟

انہوں نے پوچھا کس بارے میں؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے ابو حنیفہ کہتے ہیں میں کتاب اللہ سے دلیل پکڑتا ہوں پھر اگر اس میں نہ پاؤں تو سنت رسول اللہ ﷺ سے پھر اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی حکم نہ پاؤں تو ان کے صحابہ کے قول سے استنباط کرتا ہوں۔ ان میں سے جس کا قول چاہوں میں اختیار کرتا ہوں اور جس کا چاہوں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ان کے قول کے مقابلے میں کسی دوسرے کا قول نہیں لیتا۔ پس اگر معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ابراہیم، شعبی، ابن سیرین، عطاء، سعید بن المسیب وغیرہ افراد تک معاملہ جائے تو یہ افراد ہیں جنہوں نے اجتہاد کیا تو میں بھی اجتہاد کرتا ہوں جیسے انہوں نے اجتہاد کیا۔ (تاریخ بغداد)

علم نبوی ﷺ کے وارث ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب ہیں

ابو عبد اللہ حسین بن محمد بن خضر طحی نے اپنی مسند کے مقدمہ میں تحریر کیا ہے کہ خلف بن ایوب نے فرمایا کہ علم اللہ پاک کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کی طرف منتقل ہوا۔ آپ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف، ان سے تابعین کی طرف اور پھر ان سے ابو حنیفہ

اور ان کے اصحاب کی طرف منتقل ہو گیا۔

فائدہ: خطیب بغدادی نے اس روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی نقل کیا ہے ”جس کا دل چاہے اس سے راضی ہو اور جس کا دل چاہے ناراض“۔ (ج ۱ ص ۳۳۶)

محمد بن حفص نے حسن بن سلیمان سے اس حدیث ”لا تقوم ساعة حتى يظهر العلم“ (قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم ظاہر ہو جائے) کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علم اور ان کے آثار کا پھیلا ہے۔

ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خوبیاں

سعید بن منصور فرماتے ہیں: میں نے فضیل بن عیاض کو کہتے سنا کہ ابو حنیفہ ایک ایسے فقیہ تھے جو اپنے فقہ کی وجہ سے پہچانے جاتے۔ اپنے تقویٰ کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ کثیر المال تھے جو کوئی ان کے پاس چکر لگاتا اس پر فضل و احسان فرماتے۔ رات دن تعلیم دینے کی مشقت پر صبر کرنے والے، کثرت سے روزہ رکھنے والے، کم گو انسان تھے۔ اگر ان سے کسی حلال و حرام کی بابت سوال کیا جاتا تو حق کو دلیل سے ثابت کرتے۔ بادشاہ کی طرف سے ملنے والے ہدایا سے دور بھاگتے تھے۔ جب ان کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش کیا جاتا جس میں کوئی حدیث صحیح ہو تو اس کا اتباع کرتے اگرچہ وہ کسی صحابی یا تابعی ہی سے منقول ہو ورنہ عمدگی سے قیاس کرتے۔ (تاریخ بغداد)

ابو عبید فرماتے ہیں: میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو کہتے سنا: جو فقہ سیکھنا چاہے اسے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو لازم پکڑنا چاہئے، کیونکہ سب لوگ فقہ میں انہیں کے تابع ہیں۔ (تاریخ بغداد)

وکیع رحمہ اللہ کا امام صاحب رحمہ اللہ کی تعریف کرنا

وکیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خدا کی قسم! امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے صاحب امانت تھے اور ان کے دل میں اللہ پاک کی بڑی عظمت و کبریائی تھی۔ وہ ایسی راہ پر تھے کہ اللہ ان

سے ہر حال میں راضی تھا اگر وہ اللہ کی راہ میں تلوار اٹھاتے تو بھی امکان یہی تھا کہ اللہ ان پر رحم فرماتا اور ان سے راضی ہوتا۔ اللہ نیک لوگوں سے راضی ہوتا ہے وہ انہی میں سے تھے۔

نضر بن شمیل رحمہ اللہ کے تعریفی کلمات

حسن بن حارث فرماتے ہیں: میں نے نضر بن شمیل رحمہ اللہ کو کہتے سنا، لوگ فقہ کی بابت سوئے ہوئے تھے حتیٰ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی نے ان کو اپنے فقہ بیان اور تلیخیص کے ذریعہ بیدار کیا۔ (ایضاً ج ۱۳ ص ۳۴۵)

مسعر بن کدام امام کے حلقہ درس میں

عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے مسعر رحمہ اللہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں بیٹھے دیکھا وہ آپ سے سوال کر رہے تھے اور جوابات کو سمجھ رہے تھے۔ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ فقہ میں عمدہ کلام کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۴۳)

ابو نعیم رحمہ اللہ کا قول

ابو نعیم فرماتے ہیں: ابو حنیفہ رحمہ اللہ عمدہ چہرے والے تھے، اچھے کپڑے پہنتے، عمدہ خوشبو استعمال کرتے، آپ کی مجلس بہت اچھی ہوتی، بہت اکرام کرتے، اپنے بھائیوں کے ساتھ عمدگی سے پیش آتے۔ (ایضاً)

معمر رحمہ اللہ کے تعریفی کلمات

عبدالرزاق فرماتے ہیں: میں معمر کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس عبداللہ بن مبارک آ گئے، تو میں نے معمر کو کہتے سنا: میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بہتر فقہ میں کلام کرتا ہو اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بہتر حدیث کی شرح

کرتا ہوا اور اس سے مسائل مستبط کرتا ہو۔

میں اپنے آپ سے خوفزدہ رہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ شک نہ آئے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے شخص نے دین میں کوئی بات داخل کی ہوگی۔ (ایضاً)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ابوداؤد کا فیصلہ

بشر بن حارث فرماتے ہیں: میں نے ابوداؤد رحمہ اللہ کو کہتے سنا، کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھول سکتا سوائے دو آدمیوں کے۔ ایک جو ان کے علم سے حسد کرتا ہو دوسرا جاہل جو ان کے علم کی قدر کو نہیں پہچانتا۔ میں نے ابو معاویہ الضریر کو یہ کہتے سنا، کہ میں ہارون کے پاس تھا اس نے مجھے حلوا کھلایا پھر اس کے پاس پانی اور سلفی لائی گئی پھر اس نے میرے ہاتھوں پر پانی ڈال کر ہاتھ دھلائے۔ پھر بولا تجھے معلوم ہے تیرے ہاتھ کس نے دھلائے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ بولا کہ امیر المؤمنین نے تمہارے علم کے اکرام کی وجہ سے۔ میں نے کہا اللہ آپ کا اکرام کرے جیسے آپ نے علم کا اکرام کیا۔

قاری ابو عبد الرحمن کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل حدیث کا انداز

بشر بن موسیٰ فرماتے ہیں: ابو عبد الرحمن المقرئ جب امام صاحب سے کسی روایت کو نقل فرماتے تو یوں کہتے ہیں: ”حدیثنا شاہا نشاہ:“ ”بادشاہوں کے بادشاہ نے ہم سے بیان کیا۔“ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۳۵)

دنیا کے سب سے بڑے عالم

ابن ابی اویس فرماتے ہیں: میں نے ربیع کو کہتے سنا: کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ خلیفہ منصور کے دربار میں داخل ہوئے اس کے پاس عیسیٰ بن موسیٰ بیٹھے تھے۔ انہوں نے منصور سے کہا یہ آج دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اس نے امام صاحب سے پوچھا: اے نعمان! تم نے کس سے علم حاصل کیا؟

آپ نے فرمایا: عمر رضی اللہ عنہ سے بواسطہ اصحاب عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ سے بواسطہ اصحاب علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بواسطہ اصحاب عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روئے زمین پر ان سے زیادہ عالم کوئی نہیں تھا۔
منصور نے کہا تو نے باوثوق ذرائع سے علم حاصل کیا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غیبت سے احتراز

یہی حمانی فرماتے ہیں: میں نے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے سنا، کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا: اے ابو عبید اللہ! ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیبت سے کتنا بچتے تھے؟ میں نے ان کو کبھی اپنے دشمن کی برائی کرتے نہیں سنا۔ کہنے لگے: خدا کی قسم! وہ بہت عظیمند تھے کہ انہوں نے اپنی نیکیوں پر اس چیز کو مسلط نہیں کیا جو ان کو مٹا دے۔

حاسدین کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات

ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، کہ حسن بن عمارۃ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں: خدا کی قسم! میں نے آپ سے زیادہ بلند انداز میں فقہ میں کلام کرنے والا نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ سے زیادہ حاضر جواب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے زمانے میں آپ فقہ پر کلام کرنے والوں کے سردار تھے۔ آپ کے بارے میں جو کوئی کلام کرتا ہے صرف حسد کی وجہ سے کرتا ہے۔

مسعر بن کدام کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی معیت اختیار کرنا اور
ان کی مسجد ہی میں مرنا

مسعر بن کدام کہتے ہیں: میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آیا میں نے انہیں فجر کی نماز پڑھتے دیکھا۔ فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے بیٹھ گئے۔

یہاں تک کہ آپ نے ظہر پڑھی، پھر عصر تک بیٹھے، عصر پڑھ کر مغرب تک پڑھایا اور مغرب پڑھنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز تک پڑھایا۔

میں نے دل میں سوچا یہ آدمی پڑھنے پڑھانے کے شغل میں مشغول ہے عبادت کے لئے کب فارغ ہوتا ہوگا۔ میں اس کی رات کی نگرانی کروں گا۔

پس میں نے آپ کی رات کی نگرانی کی جب لوگ سو گئے تو آپ پھر مسجد کی طرف آئے اور طلوع فجر تک نماز میں مشغول رہے۔ اس کے بعد گھر میں گئے کپڑے بدلے پھر مسجد میں آئے فجر پڑھائی اور لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے بیٹھ گئے، ظہر تک پڑھایا، اس کے بعد عصر تک پھر مغرب اور عشاء تک پڑھایا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید انہوں نے شب گزشتہ میں آرام کیا ہوگا میں اس رات پھر ان کی نگرانی کروں گا۔ پس میں نے ان کا خیال رکھا پھر جب لوگ سو گئے تو آپ باہر تشریف لائے اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور وہی کچھ کیا جو شب گزشتہ میں کیا تھا پھر جب صبح ہو گئی تو آپ نے اسی طرح کپڑے وغیرہ تبدیل کئے اور نماز فجر کے لئے باہر تشریف لائے اور یوم گزشتہ کی طرح سارا دن وہی اعمال کئے، حتیٰ کہ جب عشاء پڑھائی تو میں نے دل میں کہا شاید ان دوراتوں میں آپ کی طبیعت میں نشاط ہو میں آج کی رات آپ کو پھر دیکھوں گا۔ پس آپ نے اس رات میں بھی وہی اعمال کئے جو گزشتہ راتوں میں کئے تھے پھر صبح کو آپ اسی طرح تدریس کے لئے تشریف فرما ہوئے تو میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں آپ سے مرتے دم تک وابستہ رہوں گا۔ پس میں نے آپ کی مسجد ہی میں ڈیرہ ڈال دیا۔

ابن ابی معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد ہی میں حالت سجدہ میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ رحمہ اللہ علیہ۔

(تاریخ بغداد ج ۳ ص ۳۵۶)

شب بیداری

ابو جوریہ فرماتے ہیں میں حماد بن ابی سلیمان، علقمہ بن مرشد، محارب بن دثار اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا۔ میں نے ان میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ شب بیدار پایا۔ میں چھ ماہ ان کی خدمت میں رہا اس زمانے میں میں نے ان کورات میں کمرنگا تے نہیں دیکھا۔

احادیث پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اعتماد

حمزہ سکری بیان کرتے ہیں: میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ فرماتے ہیں: جب مجھے کسی معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جاتی ہے تو پھر میں کسی اور طرف نہیں دیکھتا بلکہ اس سے اخذ مسئلہ کرتا ہوں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھا منہ والا

ابو عثمان فرماتے ہیں میں نے اسرائیل کو کہتے سنا: ”نعمان (ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ) کتنے اچھے شخص ہیں وہ اس حدیث کو بہت یاد رکھتے ہیں جس میں کوئی مسئلہ ہو اور اس میں بہت زیادہ غور و خوض کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے خلفاء، امراء اور وزراء نے ان کا اکرام کیا۔ وہ جب کسی آدمی میں تفقہ دیکھتے تو اس سے سوال کرتے اور اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے۔ مسعر فرماتے تھے: جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان (اس کے احکام کی پیروی کرنے میں) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو واسطہ بنا لیا مجھے امید ہے کہ وہ افراط و تفریط میں مبتلا نہیں ہوگا اور بے خوف ہوگا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر معترض کی حیثیت

حارث بن الیاس فرماتے ہیں: کہ ابو وہب عامری نے کہا کہ موزوں پر مسح کھ انکار اور امام ابو حنیفہ پر اعتراض بے وقوف ہی کر سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اکرام کرنا

ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ سفیان کے بھائی عمر بن سعید کا انتقال ہو گیا، ہم ان کے پاس تعزیت کے لئے آئے، جبکہ وہ اپنے اعزہ کی ایک مجلس خاصہ میں تشریف فرما تھے۔ اور وہاں عبداللہ بن ادریس بھی تھے کہ اچانک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک جماعت کے ساتھ وہاں تشریف لائے۔

جب سفیان نے ان کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان سے معاف کیا اور اپنی جگہ ان کو بٹھا کر خود ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے عرض کیا: اے ابو عبداللہ! میں نے آپ سے آج ایک ایسا فعل دیکھا جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں اور اپنے اصحاب کو بھی اس کے کرنے سے منع کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے، آپ ان کے اکرام میں کھڑے ہوئے ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان کا بہت ہی اکرام کیا۔ انہوں نے کہا: میں نے اس بات کو (یعنی بڑے کا اکرام کرنے کو) منع نہیں کیا۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے اس کے مستحق ہیں۔ پس اگر میں ان کے علم کی وجہ سے نہ انھوں تو ان کی بڑائی کی وجہ سے کھڑا ہوں گا۔ اور اگر ان کی کبر سنی کی وجہ سے کھڑا نہ ہوں تو ان کے فقہ کی وجہ سے کھڑا ہوں گا۔ اور اگر ان کے تفقہ کی وجہ سے کھڑا نہ ہوں تو ان کے تقویٰ کی وجہ سے کھڑا ہوں گا۔ انہوں نے مجھے چپ کرادیا میرے پاس ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔

امام صاحب رحمہ اللہ کا صحابی کے قول کو قیاس پر ترجیح دینا

عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جب کسی مسئلہ میں نبی اکرم ﷺ کی حدیث موجود ہو تو وہ میرے لئے سب سے اہم ہے۔ اور جب کوئی بات اصحاب نبی ﷺ سے منقول ہو تو ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس سے باہر نہیں جاتے اور اگر کوئی بات تابعین سے منقول ہو تو پھر اپنے قیاس سے اس کا تقابل کرتے ہیں۔

رات دن میں دو قرآن کی تلاوت

علی بن یزید صدائی فرماتے ہیں: میں نے رمضان المبارک میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ساٹھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا۔ ایک قرآن رات بھر میں پڑھتے اور ایک قرآن دن میں مکمل فرماتے۔ (منائب ابی حنیفہ ص ۲۰۷)

رات کی نماز میں امام صاحب رحمہ اللہ کا معمول

یحییٰ حمانی نے امام صاحب رحمہ اللہ کے بعض اصحاب سے امام صاحب کا معمول نقل کیا ہے: کہ آپ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور جب رات میں آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو عمدہ لباس زیب تن کرتے اور اپنی داڑھی میں کنگھا کرتے۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۵۵)

امام صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں شقیق کی رائے

حافظ ابو بکر بن محمد بن عمر الجعفی کی کتاب سے اسحق بن یہیول نے سفیان بن عیینہ کا قول نقل کیا ہے کہ شقیق بن عیینہ فرماتے ہیں: میری آنکھ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مثل نہیں دیکھا۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۳۶)

حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کا قول

عفان بن مسلم فرماتے ہیں: میں نے حماد بن سلمہ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتے سنا: تقویٰ کے اعتبار سے امام صاحب رحمہ اللہ سب لوگوں سے بہتر ہیں۔

اوزاعی رحمہ اللہ اور عمری رحمہ اللہ کا قول

اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں: میں نے امام اوزاعی رحمہ اللہ اور عمری رحمہ اللہ دونوں کو امام صاحب کے بارے میں یہ کہتے سنا: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مشکل مسائل کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔

یزید بن ہارون رحمہ اللہ کا قول

یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میری خواہش ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فلاں فلاں مسئلہ لکھ لوں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقلی بلندی

تاریخ بخاری میں غنجاہ علی بن عاصم کا قول نقل کرتے ہیں: اگر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقل کو نصف اہل زمین کے مقابلہ میں وزن کیا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقل بڑھ جائے۔

امام صاحب رحمہ اللہ رائے پر فتویٰ نہیں دیتے

نعیم بن عمر فرماتے ہیں: میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہتے سنا: لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اپنی رائے پر فتویٰ دیتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی حدیث کے بغیر فتویٰ نہیں دیا۔

وتروں میں سورتوں کی تلاوت

اسد بن عمر فرماتے ہیں: میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہتے سنا: قرآن میں کوئی ایسی سورت نہیں بچی جس کو میں نے اپنے وتروں میں نہ پڑھا ہو۔ (مناقب ابی حنیفہ)

ابو قاسم بن برہان النخوی رحمہ اللہ کا قول

ابو قاسم علی بن حسین بن عبد اللہ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے قاسم بن برہان النخوی رحمہ اللہ کو کہتے سنا: جس کو بھی اللہ نے کچھ عطا فرمایا (یعنی علم) وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام غلیل رحمہ اللہ کے مذہب کی وجہ سے، ان دونوں میں اللہ کی بے شمار نشانیاں اور عاجز کر دینے والی حکمتیں ہیں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ نے ان دونوں کا انتخاب ہی صحیح طریقہ اور سچی شریعت کے لئے کیا ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ کی تعریف میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اشعار

ابن خسر فرماتے ہیں کہ قاضی ابوسعید محمد بن احمد بن محمد رحمہ اللہ نے قاضی ابو یوسف

یعقوب بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر سنائے جو انہوں نے کہے تھے:

حسبی من الخیرات ما اعدتہ ﴿۱﴾ یوم القیامۃ فی رضی الرحمن
 دین النبی محمد خیر الواری ﴿۲﴾ ثم اعتقادی مذهب النعمان
 ”قیامت کے دن اللہ کی خوشنودی کے لئے جو بھلائیاں میں نے
 جمع کی ہیں ان میں مجھے یہ دو ہی کافی ہیں۔ ایک محمد خیر الواری کے
 دین میں ہونا، دوسرے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے
 مذہب کی پیروی۔“

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حاضر جوابی

محمد بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسید بن ابی اسید کو امام اعظم ابو حنیفہ کی
 حاضر جوابی اور قیاس پر بڑا تعجب ہوا، جبکہ حجاج نے اپنا ایک سفید بال پکڑا اور حجام سے
 کہنے لگا اس قسم کے سفید بال اکھاڑ دو، حجام بولا ان کو نہ اکھاڑیے اس لئے کہ یہ جتنے
 اکھاڑے جائیں گے یہ زیادہ پیدا ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً بولے: اگر
 اکھاڑنے سے سفید بال زیادہ نکلتے ہیں تو پھر تم کالے بال اکھاڑ دو تا کہ وہ زیادہ نکل
 آئیں۔ (کتاب المتفق والمفترق)

عہدہ قضا سے بچنے کے لئے حیلہ

محمد بن یحییٰ القصری فرماتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ، امام ثوری، مسعر
 اور شریک رحمہم اللہ کو بلایا تا کہ ان کو عہدہ قضا سپرد کرے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے میں بتاؤں کہ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا: کہ میرا معاملہ تو
 یہ ہے کہ میں حیلہ کر کے اس سے بچ جاؤں گا۔ اور مسعر رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ایسی حالت بنائے گا
 کہ خلیفہ سمجھے یہ مجنون ہے، وہ بھی بچ جائے گا۔ اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ تو وہ بھاگ جائے گا۔
 البتہ شریک رحمۃ اللہ علیہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ پس جب یہ سب خلیفہ منصور کے یہاں

پیش ہوئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا: میں تو (عرب کی) پیروی کرنے والا ہوں اور عرب میں سے نہیں ہوں اور عرب اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ ان پر ایک غیر عرب قاضی مقرر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے اندر اس عہدہ کی صلاحیت نہیں ہے۔ پس اگر میں اپنے اس قول میں سچا ہوں تو پھر میں اس عہدہ کا اہل نہیں ہوں اور اگر جھوٹا ہوں تو آپ کے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ آپ ایک جھوٹے کو مسلمانوں کی جانوں اور اموال پر حاکم مقرر کر دیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب خلیفہ کا آدمی پہنچا تو انہوں نے کہا یہاں ٹھہرو میں ایک کام سے فارغ ہو کر ابھی آیا وہ انتظار کرنے لگا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی کے ملاح سے کہا: تو مجھے کشتی میں سوار کر نہیں تو میں ذبح کر دیا جاؤں گا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے استدلال کیا: مسن جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین ”جس کو عہدہ قضا پر فائز کیا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔“ تو ملاح نے آپ کو ایک بوری کے نیچے چھپا لیا۔

امام مسعر رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے اس سے کہا اپنا ہاتھ دکھاؤ میں دیکھوں تمہارا تمہاری اولاد اور تمہارے جانوروں کا کیا حال ہے۔ خلیفہ نے کہا اس کو نکال دو یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے۔ البتہ شریک رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ قضا پر فائز کیا گیا اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تمہارے لئے بھاگنا ممکن تھا لیکن تم نہیں بھاگے۔

سلف صالحین کی پیروی لازم ہے

ابو اسماعیل فرماتے ہیں: میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اعراض و اجسام کے بارے میں علم کلام میں جو باتیں لکھی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ فلاسفہ کی باتیں ہیں تم پر سلف صالحین کا اتباع لازم ہے ان سے اور ہر نئی بات سے بچو کہ وہ بدعت ہے۔

محمد بن حسین فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عمر بن عبید پر

لعنت فرمائے کہ اس نے علم کلام میں لایعنی طریق ایجاد کیا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ ہمیں فقہ سیکھنے کی ترغیب دیتے اور علم (فلسفہ) سے احتراز کرنے کو فرماتے۔

ابن خلکان رحمہ اللہ کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعریف کرنا

تاریخ ابن خلکان میں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عالم باعمل، زاہد، متقی، پرہیزگار اور اللہ کے حضور ہمیشہ تضرع و زاری کرنے والے شخص تھے۔ منصور نے ان کو عہدہ قضا پر فائز کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے قسم کھائی کہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ ابو حنیفہ نے قسم کھائی میں ہرگز اس کو قبول نہیں کروں گا۔

ربیع بن یونس حاجب اثری نے کہا امیر المؤمنین نے قسم کھالی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا امیر المؤمنین میری نسبت کفارہ قسم کے ادا کرنے پر زیادہ قادر ہیں۔ آپ نے اس بات سے انکار کیا کہ آپ کو عہدہ قضا پر فائز کیا جائے۔ آپ فرماتے: اللہ سے ڈرو، یہ امانتیں انہی کے سپرد کرو جو خوفِ خدا رکھتے ہیں۔ رہ گیا میرا معاملہ تو میں تو بخدا خوشی میں بھی مامون نہیں ہوں تو غصہ میں کیسے قابو میں رہ سکتا ہوں۔

تیرے مصاحبین میں سے بہت سے ایسے ہیں جو تیرے لئے بہتر انداز میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ میرے میں اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا: تم جھوٹ کہتے ہو، تم میں اس کی صلاحیت ہے۔ آپ نے جواب دیا تو نے خود ہی میرے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تیرے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ عہدہ قضا جو ایک امانت ہے اس پر ایک جھوٹے شخص کو مقرر کر دیا جائے۔ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خوبصورت آدمی تھے، عمدہ ہیئت میں رہتے، اور بکثرت عطر کا استعمال فرماتے تھے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تفقہ کے بارے میں ابن معین کا قول

یحییٰ بن معین فرماتے ہیں: میرے نزدیک قراءتِ حمزہ کی اور فقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معتبر ہے، میں نے لوگوں کو اسی پر کاربند پایا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کم گوئی

جعفر بن ربیع فرماتے ہیں: میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں پانچ سال رہا میں نے آپ سے زیادہ کم گو کسی کو نہیں دیکھا۔ جب آپ سے فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ منہ کھولتے اور بہتے چشموں کی طرح رواں دواں کلام فرماتے۔

امام صاحب رحمہ اللہ کا پڑوسیوں سے حسن سلوک

کوفہ میں امام صاحب کا ایک پڑوسی اسکا ف تھا۔ سارا دن کام کرتا، رات گئے گھر لوٹتا۔ کبھی گوشت لے کر آتا اور اس کو پکا کر کھاتا یا مچھلی لاتا اور اس کو بھون کر کھاتا اور شراب پیتا رہتا، جب شراب کا نشہ چڑھ جاتا تو یہ شعر پڑھنا شروع کر دیتا

اضاعونی وای قتی اضاعوا ❁ لیوم کریہة وسداد ثغر

”انہوں نے مجھے ضائع کر دیا ہے اور انہوں نے ایک ایسے

نوجوان کو ضائع کیا۔ ہے جس سے حالت جنگ میں سرحدوں کی

حفاظت کا کام لیا جاسکتا تھا۔“

وہ شراب پیتا رہتا اور اس شعر کو دہراتا رہتا حتیٰ کہ سو جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہر رات اس کی اس آواز کو سنتے تھے، امام صاحب رحمہ اللہ خود ساری رات نماز پڑھتے تھے۔ ایک رات جب امام صاحب نے اس کی آواز نہ سنی تو اس کے بارے میں استفسار کیا، آپ کو بتایا گیا کہ چند دن ہوئے اس کو بادشاہ کا چوکیدار پکڑ کر لے گیا ہے اور وہ قید خانہ میں ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ نے صبح کی نماز پڑھی اور اپنے خچر پر سوار ہو کر خلیفہ کے دربار میں پہنچے اور حاضری کی اجازت چاہی۔ خلیفہ نے کہا: ان کو آنے کی اجازت ہے اور ان کو سواری سے اترنے کے لئے نہ کہا جائے بلکہ اگر امان کے لئے فروش بچھائے جائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، امیر نے اپنی مجلس جاری رکھی جب امام صاحب رحمہ اللہ پیش

ہوئے تو خلیفہ نے کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا: میرا ایک پڑوسی اسکاف ہے۔ چند رات قبل اس کو ایک سپاہی نے پکڑ لیا ہے، اس کی رہائی کا حکم نافذ فرما دیجئے، کہنے لگا بہت اچھا اور یہ حکم دیا کہ اس رات سے آج رات تک جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں سب کو چھوڑ دو۔ امام صاحب رحمہ اللہ اپنی سواری پر سوار ہو کر چلے اور اسکاف ان کے پیچھے چلا تو امام صاحب رحمہ اللہ نے اس سے کہا: یا فتی اضعناک (اے نوجوان! کیا ہم نے تجھے ضائع کر دیا) اس نے کہا نہیں بلکہ آپ نے میری حفاظت کی اور رعایت کی اللہ تعالیٰ آپ کو پڑوسی کے حقوق کی رعایت کرنے پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ شخص تائب ہو گیا اور پھر کبھی ایسا گناہ نہیں کیا۔ (تاریخ بغداد)

(صالحی نے اس حکایت پر اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ وہ امام صاحب کی مجلس میں بیٹھنے لگا اور بڑے درجہ کا فقیہ ہو گیا) (تاریخ بغداد) (تمییز الصحیفہ ص ۱۳۶)

امام صاحب رحمہ اللہ کی ذہانت

ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مکہ جاتے ہوئے میں نے راستہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا کہ ان کے لئے ایک عمدہ موٹا تازہ مچھڑا بھونا گیا ان سب کی یہ خواہش ہوئی کہ اس کو سر کے میں ڈبو ڈبو کر کھائیں لیکن کوئی ایسا برتن نہیں تھا جس میں سر کا ڈال لیتے سب اس سلسلے میں پریشان ہی تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ریت میں گڑھا کھودا اور اس میں چمڑے کا دسترخوان بچھایا (تو اس کی شکل پیالے کی بن گئی) اس پر سر کا ڈالا اور سب نے مچھڑے کا بھنا گوشت سر کے میں ڈبو کر کھایا، لوگوں نے کہا تیرے علم نے ہر چیز کی عمدگی سکھا دی، امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: تم اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے لئے اپنے فضل سے میرے دل میں یہ صورت القاء کر دی۔

منصور کے دربان کی مکاری سے امام صاحب کا بچاؤ

امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام صاحب رحمہ اللہ کو بلایا

جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو اس کے دربان نے جو امام صاحب سے عداوت رکھتا تھا) کہا: اے خلیفہ! یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو آپ کے دادا سے مخالفت رکھتے ہیں (وہ اختلاف یہ تھا کہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں قسم کھائے اور پھر ایک یا دو دن بعد اپنی قسم میں سے کسی بات کا استثناء کر لے تو یہ درست ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا کہ اگر قسم کے ساتھ ہی کلمہ استثناء بولا جائے تو استثناء درست ہوگا ورنہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کہا اے امیر المؤمنین! ربیع کا خیال ہے کہ آپ کو اپنے لشکریوں پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا یہ کیسے؟ ابو حنیفہ نے کہا اس طرح کہ وہ آپ کے روبرو ایک بات کے کرنے کا حلف اٹھا لیتے ہیں پھر جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اس سے چند باتیں مستثنیٰ کر دیتے ہیں اس طرح اپنی قسموں کو توڑتے ہیں۔

خلیفہ منصور ہنس پڑا اور بولا: اے ربیع! امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعرض مت کر۔

جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے تو ربیع نے ان سے کہا آپ نے تو آج مجھے قتل کرانے کا ہی ارادہ کر لیا تھا، ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ تم نے میرے خون بہانے کا ارادہ کیا تھا میں نے تو تمہیں اور اپنے آپ دونوں کو بچایا ہے۔

ابوالعباس طوسی کے مکر سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع

ابوالعباس طوسی کی رائے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اچھی نہیں تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ منصور کے پاس حاضر ہوئے جبکہ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ طوسی نے کہا: آج میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرادوں گا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور بولا: اے ابو حنیفہ! امیر المؤمنین نے ہم میں سے ایک آدمی کو بلایا ہے وہ اس کی گردن مارنا چاہتا ہے مجھے نہیں پتہ کیوں؟ کیا وہ اس کو قتل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اے ابوالعباس! امیر المؤمنین حق کا حکم دے گا یا باطل؟ کہنے لگا حق کا۔

آپ نے فرمایا: حق نافذ کرو جہاں بھی ہو اور اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا اس نے مجھے فتنہ میں مبتلا کرنا چاہا تھا، میں نے اس کو باندھ دیا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خوفِ خدا

یزید بن الحکیت فرماتے ہیں: علی بن حسن نے ایک رات عشاء کی دوسری رکعت میں سورہ ”اذا زلزلت“ پڑھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے بالکل پیچھے کھڑے تھے جب نماز مکمل ہو گئی اور لوگ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سوچ میں گم بیٹھے گہری سانس بھر رہے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ میں چلتا ہوں ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا۔ میں مسجد سے باہر نکلا اور میں نے چراغ جلتا چھوڑ دیا اس میں تھوڑا سا تیل باقی تھا۔

جب میں واپس مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ بیٹھے یہ کہہ رہے تھے: اے وہ ذات! جو چھوٹی سی بھلائی کا بدلہ دے گا اور چھوٹی سی برائی پر پکڑے گا، اپنے بندے نعمان کو آگ سے نجات عطا فرما اور ان باتوں سے بچا جو اس کو برائی سے قریب کر دیں اور اس کو اپنی وسیع رحمت میں داخل فرما۔

پس میں نے اذان دی تو اسی وقت چراغ بھڑکا اور آپ اس کے پاس کھڑے تھے، جب میں داخل ہوا تو آپ نے کہا: تم چراغ لے جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: میں نے تو صبح کی اذان دی ہے۔ آپ نے فرمایا: جو تم نے دیکھا ہے اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا آپ نے دو رکعتیں پڑھیں یہاں تک کہ نماز فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ نے اسی عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا سنِ ولادت و وفات

آپ کا سنِ ولادت ۸۰ھ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ۶۱ھ ہے۔ پہلا قول زیادہ

صحیح ہے۔

آپ کا انتقال رجب یا ایک قول پر شعبان ۱۵۰ھ میں ہوا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جمادی الاولیٰ ۱۵۰ھ کی گیارہ تاریخ تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا سن وفات ۱۵۱ھ ہے، ایک قول ۱۵۳ھ کا بھی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس دن امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی اس روز آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا انتقال بغداد میں ہوا اور خیزران کے قبرستان میں تدفین ہوئی، وہاں آپ کی قبر مشہور ہے اور زیارت گاہ عام ہے۔

(تاریخ ابن خلکان)

حافظ جمال الدین مزی نے کتاب ”التہذیب“ میں اتنی بات اور ذکر کی ہے کہ امام صاحب کی نماز جنازہ چھ مرتبہ پڑھی گئی اور کثرت جہوم کی وجہ سے آپ کو عصر تک دفن نہ کیا جاسکا۔

فائدہ:

خطیب اور ابو محمد الحارثی نے بیان کیا ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام صاحب کو کوفہ سے بغداد بلایا اور ان سے عہدہ قضا پر فائز ہونے کے لئے کہا۔ اور تمام بلاد اسلام کے قاضیوں کو ان کے ماتحت کرنے کے لئے کہا۔ آپ نے بعض وجہ سے اس سے انکار کیا۔ تو اس نے آپ کو قید کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ کو ہر روز قید خانہ سے باہر نکال کر دس کوڑے مارے جائیں اور بازاروں میں ایک منادی آپ کو لے کر چکر لگائے۔ پس آپ کو نکالا جاتا اور شدت آمیز ضرب لگائی جاتی حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہوتا۔ ایک منادی آپ کو لے کر بازاروں میں پھرتا اور آپ کے نقش قدم پر خون بہتا جاتا اور پھر واپس لا کر آپ کو قید کر دیا جاتا۔ قید خانہ میں آپ پر کھانے پینے میں تنگی کی جاتی اور ایسا آپ کے ساتھ دس دن تک کیا جاتا رہا اور ہر روز دس کوڑے بھی مارے جاتے۔ جب پے در پے آپ کو کوڑے مارے گئے تو آپ بہت روئے اور دعا کی۔ اس کے بعد آپ پانچ یوم زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے۔ اللہ

تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ سے راضی ہو۔ ابو محمد حارثی نعیم بن یحییٰ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی موت زہر دینے کے سبب سے واقع ہوئی۔ ابی حسن زیاد دی فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب نے محسوس کیا کہ موت آ ہی گئی ہے تو آپ سجدے میں گر گئے اور حالت سجدہ میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ (مفتوح الجمان، ص: ۲۵۷)

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: کہ صحیح بات یہی ہے کہ آپ کا انتقال قید خانہ میں ہوا۔ ان کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ پچاس ہزار افراد کا ہے۔ بعض نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے۔ (خیرات الحسان لابن حجر کی)

امام صاحب رحمہ اللہ کا مجلس وقار

ابن مبارک فرماتے ہیں: ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے پُر وقار کسی کی مجلس نہیں تھی۔ ہم ایک روز جامع مسجد میں ان کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک سانپ ابوحنیفہ کے گود میں آ پڑا امام صاحب کے علاوہ سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ امام صاحب نے اپنی گود میں سے سانپ کو جھاڑا اور اپنی جگہ بیٹھ گئے۔

خوفِ الہی سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا رونا

عبدالرزاق فرماتے تھے: میں نے جب بھی امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا ان کی آنکھوں اور رخسار پر رونے کی علامات پائیں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے گھر میں صرف ایک بوری

سہل بن مزاحم فرماتے ہیں ہم جب بھی ابوحنیفہ کے گھر جاتے تو ان کے گھر میں سوائے ایک بوری کے کچھ نہ پاتے۔ (اگرچہ امام صاحب بہت امیر آدمی تھے لیکن اپنے استعمال میں زیادہ اسباب نہیں رکھتے تھے)

ابو حنیفہ کی مثل ان کے بعد نہیں ہوا

امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں کا نمونہ تھے لیکن خدا کی قسم! روئے زمین پر ان کے جانے کے بعد ان جیسا کوئی بھی نہیں ہوا۔

اپنے مخالفین کے بارے میں امام صاحب رحمہ اللہ کا فرمان یزید بن الکلیت فرماتے ہیں: میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایک شخص سے مناظرہ کرتے دیکھا، آپ نے فرمایا: اللہ تیری مغفرت و بخشش فرمائے تو نے میرے بارے میں جو کہا ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ بات مجھ میں نہیں اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کسی شخص کی حق تلفی نہیں کی، جب سے میں اس کو جانتا ہوں اور میں نے اس سے سوائے درگزر اور کسی بات کی امید نہیں رکھی۔ اور میں اس کے بارے میں ہمیشہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتا رہا۔ پھر عقاب کے ذکر پر آپ رونے لگے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو وہ شخص بولا: مجھے معاف فرما دیجئے! تو امام صاحب نے فرمایا: ہر وہ شخص جس نے جہالت کے سبب وہ بات کہی جو مجھ میں نہیں تو وہ اس کے لیے روا ہے (یعنی میں نے معاف کیا) اور جو کوئی اہل علم میں سے میرے بارے میں ایسی بات کہے جو مجھ میں نہیں تو وہ یقیناً سختی میں ہوگا۔ اس لئے کہ علماء کی غیبت کرنا ان کے بعد اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ساری رات علمی مذاکرہ در اور دی فرماتے ہیں: میں نے مسجد نبوی ﷺ میں عشاء کی نماز کے بعد امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو علمی مذاکرہ کرتے دیکھا۔ حتیٰ کہ جب ان میں سے کوئی ایسی کسی بات کی غلطی پر متنبہ ہوتا جو اس نے کہی ہو اور اس پر عمل کیا ہو تو وہ اپنے ساتھیوں کو اس سے بلا کسی تاسف کے منع کر دیتے اور ہر ایک ان دونوں اکابرین میں سے کسی کو غلط نہ قرار دیتا یہاں تک کہ یہ مجلس طویل کھینچتی کہ وہ دونوں اسی جگہ فجر کی نماز پڑھتے۔

امام صاحبؒ کے بارے میں کوئی غلط بات کہنے پر ابن مبارکؒ کا ڈانٹنا منصور بن ہاشم فرماتے ہیں: ہم قادیہ میں ابن مبارکؒ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اہل کوفہ میں سے ایک شخص آیا اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی غلط بات کی، تو عبد اللہ بن مبارک نے کہا اللہ تجھے ہلاک کرے، کیا تو ایسے شخص کے بارے میں بات کرتا ہے جس نے پینتالیس سال تک ایک وضو سے عشاء اور فجر پڑھیں اور جو ایک رات میں صرف دو رکعت میں پورا قرآن پڑھتا اور مجھے جو تفقہ حاصل ہوا ہے وہ میں نے امام اعظمؒ ہی سے سیکھا ہے۔

ابن مبارکؒ کی امام صاحبؒ کے بارے میں ایک تعریفی نظم

لقد زان البلاد ومن عليها * امام المسلمین ابو حنیفہ
بأثار وفقه فی حدیث * کأثار الزبور علی الصحیفہ
فما فی المشرقین له نظیر * ولا بالمغربین ولا کوفہ
رأیت العائین له سفیها * خلاف الحق مع حجج ضعیفہ

”امام اعظم ابو حنیفہؒ نے آثار صحابہؓ، فقہ حدیث سے شہروں کو ایسے مزین کر دیا جیسے کہ زبور کا غدوں پر لکھی ہوئی ہو۔ امام صاحبؒ کی نظیر نہ کوفہ میں ہے نہ مشرق و مغرب میں۔ میں نے کمزور دلیلوں سے بے وقوفوں کو ہان پر اعتراض کرتے دیکھا۔“

غسان بن محمد کی مدح امام اعظمؒ میں ایک نظم

وضع القیاس ابو حنیفہ کلہ * فأتی باوضح حجة و قیاس
والناس یتبعون فیها قوله * لما استبان ضیاءہ للناس

افدی الامام ابا حنیفۃ ذا التقی ﴿۱﴾ من عالم بالشرع والمقیاس
سبق الائمة فالجميع عیالہ ﴿۲﴾ فیما تحرّاه بحسن قیاس
”سارے قیاس کا واضع امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے
واضح حجت اور قیاس سے روشناس کیا۔ قیاس میں تمام لوگ امام
صاحب رحمہ اللہ کے تابع فرمان ہوئے۔ جب امام صاحب کا نور فہم
لوگوں سے ظاہر ہو گیا۔ میں قربان ہوں صاحب فتویٰ، عالم شریعت و
دلائل امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ پر۔ تمام ائمہ سے سبقت لے گئے حسن قیاس
اور حسن سوچ میں سب امام صاحب رحمہ اللہ کے خوشہ چیں ہیں۔“

بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کی تدبیر

مناقب ائمہ اربعہ کے آخر میں یہ حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص نے کسی جگہ
مال دفن کیا پھر اس کی جگہ بھول گیا۔ امام صاحب کے پاس آیا اور اس بات کی شکایت
کی، تو امام صاحب نے فرمایا: یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے میں اس کی تدبیر بتاؤں لیکن جاؤ
یہ کام کرو کہ رات سے صبح تک نماز میں مشغول رہو تمہیں مقام دینہ یاد آ جائے گا۔
اس شخص نے ایسا ہی کیا اس کو چوتھائی رات گزرنے سے پہلے ہی اس کی جگہ یاد
آ گئی۔ وہ امام صاحب کے پاس آیا اور اس بات کی خبر دی تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم
تھا کہ شیطان تمہیں پوری رات نماز نہیں پڑھنے دے گا بلکہ یاد دلا دے گا۔ تجھے اللہ عقل
دے پھر تو نے باقی رات اللہ کا شکر ادا کرنے میں نماز پڑھتے کیوں نہ گزاری۔

امام صاحب رحمہ اللہ کی مدح میں چند اشعار

الفقه منا ان اردت تفقها ﴿۱﴾ والجلود والمعروف للمنقاب
اذا ذكرت ابا حنیفۃ فیہم ﴿۲﴾ خضعت له فی الرأی کل رقاب
”اگر علم فقہ چاہتے ہو تو، وہ ہمارے ہاں سے ملے گا، جو دوستی اور

بھلائی ضرورت مند کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اگر تم ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرو تو رائے میں سب کی گردنیں ان کے سامنے جھک جائیں گی۔“

ابو مؤید موفق ابن احمد فرماتے ہیں:

غدا مذهب النعمان خیر المذاهب ❀ کذا القمر الوضاح خیر الکواکب
تفقه فی خیر القرون مع التقی ❀ فمذہبہ لاشک خیر المذاهب
”آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب سب مذاہب سے بہتر
ہے جیسے روشن ہونے میں چاند سب ستاروں سے بہتر ہے۔
انہوں نے خیر القرون کے زمانہ میں تفقہ کو تقویٰ کے ساتھ حاصل
کیا، تو بے شک انہی کا مذہب سب سے بہتر ہے۔“

علم شریعت، فرائض اور کتاب الشروط کے پہلے مدون

جنہوں نے مسند ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جمع کیا ہے، کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ ہی وہ پہلے شخص
ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا اور اس کے ابواب مرتب کئے۔ پھر امام
مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کی ترتیب میں ان کی پیروی کی۔

تبویب و ترتیب کتب میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی سبقت نہیں لے جاسکتا۔ اس
لئے کہ صحابہ و تابعین نے احکام شریعت کو مرتب و مبوب طور پر بیان نہیں کیا اور نا ہی کوئی
کتاب لکھی، اس لئے کہ وہ لوگ زیادہ تر اپنے حفظ پر اعتماد کرتے اور زبانی بیان
کرتے۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو منتشر پایا اور انہیں اس کے ضائع ہونے کا
خوف ہوا تو انہوں نے اس کو کتابی شکل میں ابواب کی صورت میں مدون کیا، سب سے
پہلے طہارت کے مسائل ذکر کئے پھر نماز کے پھر تمام عبادات کے پھر معاملات کے اور
اپنی کتاب کو احکام میراث پر ختم کیا۔ اس لئے کہ یہی انسان کا سب سے آخری حال
ہے۔ امام صاحب ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتاب الفرائض اور کتاب الشروط کو

وضع کیا۔ اس لئے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: ”العاس عیال ابی حنیفۃ فی الفقہ“ (فقہ میں سب لوگ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے محتاج ہیں)۔

ابو سلیمان جوزجانی فرماتے ہیں: مجھ سے قاضی بصرہ احمد بن عبد اللہ نے کہا: ہم شروط میں اہل کوفہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا: علماء کا یہی مرتبہ ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو لیتے ہیں اس لئے کہ یہ شروط تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہی نے وضع کی ہیں تم تو اس میں صرف الفاظ کی کمی زیادتی اور عمدگی ہی پیدا کرتے ہو۔

اگر اہل بصرہ و اہل کوفہ کی امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے کی مقرر کردہ کچھ شروط ہیں تو لاؤ۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر بولے میرے نزدیک حق کو تسلیم کر لینا باطل طریقہ پر حیل و حجت کرنے سے بہتر ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ کی بعض مرویات

طبرانی نے معجم میں ذکر کیا ہے، عبد الوارث بن سعید فرماتے ہیں: میں کوفہ آیا تو، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ، ابن ابی لیلیٰ اور ابن شبرمہ سے ملا۔ میں نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ اگر ایک شخص نے کوئی چیز بیچی اور اس میں کوئی شرط لگائی تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپؑ نے فرمایا: بیع بھی باطل ہے اور شرط بھی۔ پھر میں ابن ابی لیلۃ کے پاس آیا تو ان سے بھی یہی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا: بیع جائز اور شرط باطل ہے۔ پھر میں ابن شبرمہ کے پاس آیا پس ان سے بھی یہی پوچھا: تو انہوں نے کہا: بیع بھی جائز ہے اور شرط بھی جائز ہے۔ میں نے کہا: سبحان اللہ! کوفہ کے تین فقہاء ہیں تینوں نے مجھے ایک ہی مسئلہ کا مختلف جواب دیا ہے۔ پس میں ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں یہ بات بتائی۔

انہوں نے کہا: مجھے نہیں پتہ ان دونوں نے یہ بات کیوں کہی؟ میں تو یہ جانتا ہوں مجھ سے عمر بن شعیب نے روایت بیان کی ہے جو اپنے باپ دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ((ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن بیع و شرط۔ البیع باطل والشرط

باطل)) ”بے شک نبی ﷺ نے بیع کرنے اور اس میں شرط لگانے سے منع کیا ہے۔ اگر ایسا کیا تو بیع بھی باطل اور شرط بھی باطل۔“

میں ابن ابی لیلیٰ کے پاس آیا اور ان کو اس بات کی خبر دی تو انہوں نے فرمایا: مجھے نہیں پتہ ان دونوں نے کیا کہا ہے؟ مجھ سے تو ہشام بن عروہؓ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں: ((امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشترى بربرة فاعتقها البيع جائز والشرط باطل)) ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا: کہ میں بربیرہ کو خریدوں پھر اس کو آزاد کر دوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیع جائز ہے اور شرط باطل ہے۔“ پھر میں ابن شبرمہ کے پاس آیا اور ان کو اس بات کی خبر دی تو انہوں نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم وہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے تو مسعر بن کدام رحمہ اللہ بواسطہ محارث بن دثار رحمہ اللہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے ((قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرطت جملا الى المدينة البيع جائز والشرط جائز)) ”فرماتے ہیں میں نے نبی ﷺ کے ہاتھ ایک اونٹنی نیچی اور یہ شرط کی کہ میں مدینہ تک اس پر سفر کروں گا۔ معلوم ہوا کہ بیع بھی صحیح شرط بھی صحیح۔“

طبرانی نے اوسط میں اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بلال سے، وہ وہب بن کیسان رضی اللہ عنہ سے، جو جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں ((قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد والتكبير كما يعلمنا السورة من القرآن)) ”فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ہمیں تشہد و تکبیرات اسی طرح سکھائیں جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے۔“

طبرانی کہتے ہیں وہب سے یہ روایت سوائے بلال سے کسی نے نقل نہیں کی یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تفرد ہے۔

فائدہ: حدیث تشہد متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے اور حدیث جابر نسائی نے اپنی

سفن میں ذکر کی ہے۔ (تعلیق تبیض الصحیفہ: ص ۱۴۰)

طبرانی اپنی سند سے امام صاحب رحمہ اللہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حماد ابی سلیمان رحمہ اللہ سے انہوں نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، جنہوں نے علقمہ بن قیس رحمہ اللہ سے جو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں:

((قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا يَعْلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إِذَا ارَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَعِذُّكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَعْدِرُ وَلَا أَتَدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَقَدِّره لِي وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا لِي فَاهْدِلِي الْغَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَأَصْرِفْ عَنِّي الشَّرَّ حَيْثُ كَانَ وَأَرْضِنِي بِقَضَائِكَ))

”آپؐ نے فرمایا: ہمیں رسول اللہ ﷺ استخارہ کی دعا ایسے ہی سکھاتے جیسے آپ ہمیں سورت قرآن سکھاتے۔ آپؐ فرماتے: جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو یوں دعا کرے۔ اے اللہ! میں آپ سے خیر کا طلب گار ہوں آپ کے علم کے ذریعہ اس پر قادر ہونا چاہتا ہوں آپ کی قدرت کے ذریعہ آپ سے آپ کے فعل عظیم کا طلب گار ہوں اس لئے کہ آپ قادر ہیں اور میں عاجز، آپ جانتے ہیں اور میں لاعلم اور آپ تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ! اگر یہ کام میرے دین، دنیا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کو میرے لئے مقدر فرما دیجئے اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور میرے لئے بہتر ہے تو جہاں میرے لئے خیر ہے اس کی طرف میری

رہنمائی فرمادیجئے اور شر کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے اپنے فیصلہ سے راضی فرمادیجئے۔“

خطیب بغدادی نے اپنی کتاب ”المتفق والمفترق“ میں لکھا ہے کہ ابن سعد حنفی فرماتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا اور آپ مجھے بہت محبوب تھے۔ میں نے کہا:

((ایہما احب الیک بعد حجة الاسلام؟ الخروج الى الغزاء او الحج؟ قال

غزوة بعد حجة الاسلام افضل من خمسين حجة))

”جس نے حج فرض کر لیا ہو اس کے لئے آپ کے نزدیک حج کرنا اور غزوہ میں شریک ہونا دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: حج اسلام کرنے کے بعد غزوہ میں شریک ہونا پچاس (نفلی) حج کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔“

فائدہ: درمختار میں ہے مال دار کا حج فقیر کے حج سے افضل ہے۔ حج فرض والدین کا کہنا ماننے سے بہتر بخلاف نفل کے (کہ اگر والد آواز میں دیں تو نفل توڑ کر ان کی بات کا جواب دے بشرطیکہ اس کے علاوہ ان کی بات سننے والا کوئی نہ ہو لیکن حج فرض کو ان کے کہنے کی وجہ سے ترک نہیں کیا جائے گا) صدقہ اور حج میں سے کون سی عبادت افضل ہے؟ بزاز یہ کہتے ہیں نفلی حج۔ بعض نے کہا صدقہ۔ امام صاحب نے جب حج کی مشقت کو دیکھا تو فرمایا کہ نفلی صدقہ سے حج افضل ہے۔ ابن عابدین فرماتے ہیں قول فیصل یہ ہے کہ جس میں حاجت و منفعت زیادہ ہو وہی افضل ہے۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے تعلیق تمییز الصحیفہ ص ۱۴۱)

الحمد للہ آج بروز جمعہ بعد نماز مغرب ۱۵ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ بمطابق ۲۵ فروری ۲۰۰۵ء علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ”تبیس الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ النعمان“ کے ترجمہ سے فراغت ہوئی۔ کتاب کے ترجمہ کے

ساتھ اس پر موجود حضرت مولانا عاشق الہی البرنی کی تعلیقات میں سے صرف ان مقامات کا ترجمہ بھی کر دیا ہے جن کا تعلق امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ باقی دوسرے حضرات کے حالات کے متعلق جو تعلیقات تھیں ان کو طوالت کے خوف سے ترک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں اکابرین کے فیوض سے احقر کو مستفیض فرمائے اور میری اس خدمت کو قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین!

فقط

خلیل احمد تھانوی

ناظم ادارہ اشرف التحقیق


دارالعلوم الاسلامیہ لاہور

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

ہر صفت میں اعظم تھے

فقیہ العصر

حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ



فقہ العصر حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

کے حالات زندگی

۱۰/ شوال ۱۳۲۲ھ بمطابق ۱۹ دسمبر ۱۹۰۳ء کو تھانہ بھون میں پیدا ہوئے۔ آپ نسباً فاروقی، مسلکاً حنفی اور مشرباً تھانوی تھے۔ جبکہ آپ کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق راجو پور ضلع سہارنپور کے ہاشمی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد گرامی مولانا سعید احمد تھانوی ملازمت کے سلسلہ میں علی گڑھ رہتے تھے۔ آپ نے قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم اپنی نانہال راجو پور میں حاصل کی۔ بچپن ہی میں آپ اپنے والد اور والدہ کے ہمراہ علی گڑھ تشریف لے گئے۔ جہاں آپ کو ایک انگریزی سکول میں داخل کر دیا گیا۔ جارج پنجم کی تخت نشینی کے موقع پر آپ کو سکول کی طرف سے ایک تمغہ بھی دیا گیا۔ آپ کے والد صاحب چونکہ علی گڑھ کالج میں ملازم تھے اس لیے آپ کو انگریزی کی اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے لیکن مفتی صاحب کار حجان بچپن ہی سے دینی تعلیم کی طرف تھا۔ اس لیے آپ کے والد صاحب نے ۱۳۳۲ھ میں آپ کو حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے مدرسہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ میں داخل کرادیا۔ یہاں آپ نے فارسی کتب تیسرا ابتدائی سے یوسف زلیخا تک اور عربی کتب میزان الصرف سے ہدایۃ النحو تک پڑھیں، آپ کی ابتدائی کتب کے استاد مولانا عبد اللہ گنگوہی رحمہ اللہ تھے۔ اس کے بعد مولانا اشفاق الرحمن صاحب کے مدرسہ جلال آباد ضلع مظفر نگر میں داخل ہوئے

جہاں شرح جامی کی جماعت میں آپ کو داخل کیا گیا۔

ابھی مفتی صاحب کی عمر تیرہ سال تھی کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے مفتی صاحب کی عزیز داری تھی وہ آپ کی والدہ صاحبہ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لائے اور مفتی صاحب کو تعلیم کے لیے سہارنپور کے مدرسہ مظاہر علوم میں داخل کرانے کو فرما گئے۔

۲۰ ربیع الثانی ۱۳۳۶ھ میں آپ مظاہر علوم میں داخل ہوئے، کافیہ، کبیری، نورالایضاح کے اسباق آپ کے لیے تجویز ہوئے، آپ نے خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کی ہر سال آپ کلاس میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے۔ حتیٰ کہ ۱۳۴۲ھ میں آپ نے مولانا ثابت علی، مولانا عبداللطیف اور مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری جیسے اجلہ اکابر سے دور حدیث شریف مکمل کر کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی، جس پر آپ کو مدرسہ کی طرف سے بہت سی کتب کے علاوہ ایک جیسی گھڑی بھی انعام میں دی گئی۔ حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری نے تمام کتب حدیث کی خصوصی اجازت بھی آپ کو مرحمت فرمائی۔ ۱۹ شعبان بمطابق ۱۰ مارچ ۱۹۲۵ء کو آپ کی دستار بندی ہوئی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد مفتی صاحب کو سلوک و طریقت کی تعلیم کا خیال آیا، اس کے لیے بھی آپ نے اپنی مربی و شیخ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری کا انتخاب کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں: ”۱۳۴۴ھ میں بعد تعطیل شعبان احقر بیعت ہوا مگر جرأت نہ ہوئی کہ اوراد و معمولات پوچھوں، اور نہ تعطیل میں اس کے بغیر جانے کو جی چاہا، دو دن بعد ایک اور صاحب بیعت ہوئے، انہوں نے اوراد و وظیفہ پوچھا تو حضرت (مولانا خلیل احمد قدس سرہ) نے فرمایا فلاں وقت آ جانا اور جمیل کو بھی لے آنا، وہ اسی انتظار میں رکا ہوا۔“ (تذکرہ الخلیل: ۲۷۷)

۴۶- ۱۳۴۵ھ کے قریب زمانہ میں مفتی صاحب کی شادی حضرت تھانویؒ کی

ربیبہ رشیدہ خاتون سے ہوئی۔ اس طرح حضرت تھانوی سے مفتی صاحب کا دامادی کا تعلق ہو گیا۔ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمہ اللہ کا انتقال ۱۳۴۶ھ میں ہوا۔ اس کے بعد مفتی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی اصلاح کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے رجوع کیا، حضرت تھانوی اپنے اعزہ کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ لیکن مفتی صاحب چونکہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کی اولاد میں سے تھے اور اب حضرت کے بھی داماد تھے۔ نیز مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری کے مرید باصفا بھی تھے، اس لیے حضرت تھانوی نے تجدید بیعت کی ضرورت نہیں سمجھی البتہ آپ کو اور ادو وظائف بتلا دیئے اور آپ کی اصلاح باطن کا خصوصی اہتمام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مفتی صاحب نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب اسعدی سے بیعت کی جو مفتی صاحب کے استاد بھی تھے، مولانا نے آپ کو ۱۶ جمادی الاخریٰ ۱۳۸۸ھ بمطابق ۱۰ ستمبر ۱۹۶۸ء کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔

۱۳۴۲ھ میں بعد از فراغت مفتی صاحب نے اپنے استاد مربی اور شیخ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری کے حکم سے کھلم ورنگ، حیدر آباد، دکن میں تدریس کا آغاز کیا۔ وہاں کا ماحول آپ کو پسند نہ آیا تو گیارہ ماہ کے بعد وہاں سے ترک ملازمت کر کے مظاہر علوم سہارنپور میں ملازمت اختیار کر لی اور اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی درس و تدریس کا آغاز کیا۔ اپنی خداداد صلاحیتوں، محنت اور اساتذہ کی توجہ سے آپ نے مدرسہ میں بہت جلد ایک بلند مقام حاصل کر لیا اور آپ مدرسہ میں شیخ الادب کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ ۱۳۷۰ھ تک آپ کا درس و تدریس کا تعلق مظاہر علوم سے قائم رہا، اس دوران آپ نے میزان سے لے کر جلالین اور تفسیر ابن کثیر تک کثیر کتب متعدد مرتبہ پڑھائیں۔

۱۳۶۰ھ سے ۱۳۶۳ھ تک آپ طویل رخصت لے کر تھانہ بھون شریف لے آئے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی علالت کی وجہ سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس دوران آپ کو مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون کے مفتی کی حیثیت سے مقرر کیا، جہاں آپ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی زیر نگرانی بہت سے فتاویٰ تحریر فرمائے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان کا نام ”جیل الفتاویٰ“ تجویز کیا، اور پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ احقر نے اسی مجموعہ پر کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے لیے ایک مقالہ منظور کرایا ہے جو مکمل ہو چکا ہے، ان شاء اللہ عنقریب ہدیہ ناظرین کیا جائے گا۔

قیام پاکستان کے بعد مفتی صاحب پاکستان تشریف لے آئے اور جامعہ اشرفیہ لاہور میں ۱۳۷۲ھ، ۱۹۵۲ء میں آپ کا تقرر بحیثیت رئیس المفتی واستاد الحدیث ہوا آپ کے زیر درس حسب ذیل کتب رہیں، دیوان منبتی، حماسہ، بخاری شریف، ابوداؤد شریف، ابن ماجہ، نسائی، ہدایہ اخیرین، تفسیر جلالین، تفسیر بیضاوی وغیرہ۔ جامعہ اشرفیہ کے دارالافتاء میں مفتی صاحب رحمہ اللہ کا کوئی مدد و معاون نہیں تھا۔ روزانہ بیس سے پچیس خطوط آتے حضرت ان کا جواب روز کے روز قلم بند فرماتے اور روانہ کر دیتے اس طرح بیالیس سال میں آپ نے لاکھوں فتاویٰ قلم بند فرمائے جو عقلی و نقلی دلائل سے مزین ہوتے تھے۔ جبکہ زبانی پوچھے گئے مسائل کی تعداد تو احاطہ شمار سے باہر ہے۔

مفتی صاحب رحمہ اللہ نے درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف میں بھی عظیم خدمات سرانجام دیں۔ آپ کی سو سے زائد تصانیف ہیں جن میں احکام القرآن جیسی عظیم تفسیر ہے جو سورہ یونس سے سورہ فرقان تک کی تفسیر پر مشتمل ہے جس کی تقریباً سات جلدیں ہوں گی، پانچ پانچ سو صفات پر مشتمل تین جلدیں ادارہ اشرف التحقیق سے طبع ہو چکی ہیں، باقی زیر طبع ہیں، مختلف رسائل میں وقتی ضرورت کے تحت آپ نے بہت سے مقالات تحریر فرمائے جن کی تعداد ۷۰ سے متجاوز ہے۔

مفتی صاحب رحمہ اللہ کو شعر و شاعری سے بھی خاص شغف تھا، آپ اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ القصائد العربیہ کے نام سے آپ کے عربی

اشعار کا مجموعہ موجود ہے جو غیر مطبوعہ ہے۔ اردو میں آپ کی بہت سی طویل نظمیں کتابی شکل میں طبع ہو چکی ہیں مثلاً منظوم رسالہ، ضرورت مذہب، مثنوی علاج المصائب، عظمت حدیث، خرابی سینما وغیرہ۔ احقر آپ کے مجموعہ کلام کو کتابی شکل پر شائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اب تک آپ کے ڈھائی ہزار اشعار احقر نے جمع کر لیے ہیں۔ بروز اتوار ۲۱ رجب ۱۴۱۵ھ بمطابق ۲۵ دسمبر ۱۹۹۴ء صبح سات بجے خانقاہ اشرفیہ کا یہ ماہتاب و آفتاب ۹۱ سال اپنے علم و عرفان سے اس دنیا کو منور کرنے کے بعد غروب ہو گیا۔

امام اعظم رحمہ اللہ

مبسلا و محمد لا و مصلیا و مسلما

”الخیر“ کے امام اعظم نمبر میں نسب و حالات وغیرہ درج ہو چکے ہوں گے میں صرف اس قدر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام صاحب رحمہ اللہ ہر ہر صفت کمال میں اپنے ہم عصروں سے اعظم تھے۔ ان کا لقب کسی ایک صفت یعنی فقہی اجتہاد میں ہی اعظم ہونے سے نہیں بلکہ ہر ہر صفت کمال میں اعظم ہونے سے ہے تفصیل سنئے۔

امام صاحب رحمہ اللہ کی خصوصیت

(۱) بزرگی میں سب سے اعظم ہونا امام صاحب کا تابعی ہونا ہے جو اور ہم عصروں یا بعد کے اماموں کو حاصل نہیں۔ شامی (۵۹/۱) پر ہے، علامہ عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ امام صاحب نے صحابہ کی ایک جماعت کو پایا ہے، جو کوفہ میں ان کی پیدائش ۸۰ھ کے بعد تھے اور یہ سعادت تمام شہروں کے ہم عصر اماموں میں کسی کو حاصل نہیں۔

جیسے امام اوزاعی رحمہ اللہ شام والے۔ دونوں حماد رحمہ اللہ بصرہ والے ثوری کوفہ والے۔ مالک رحمہ اللہ مدینہ شریف والے، لیث بن سعد رحمہ اللہ مصر والے۔

بہترین زمانہ

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ کا ارشاد روایت ہے:

((خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم فلا
ادر ذکر قرنین او ثلاثة ثم ان بعدہم قوماً یشهدون ولا
یستشهدون ویخونون ولا یؤتمنون وینذرون ولا یوفون
ویظہر فیہم السمن۔ لستہ الا مالکا۔ [جمع
الفوائد، ۲۰۱/۲۔ وفی روایۃ ثم یفش الکذب]

”سب لوگوں سے بہتر میرا قرن (صدی) ہے پھر ان کا جو اس
کے متصل ہیں پھر ان کا جو ان کے متصل ہیں (راوی کہتے
ہیں) یا دہرے دو قرن فرمائے یا تین۔ پھر ان کے بعد ایسی قوم ہو
گی جو گواہی دیں گے اور گواہ نہ بنائے جائیں گے خیانت کریں
گے امانت نہ رکھے جائیں۔ نذر مانیں گے اور پوری نہ کریں
گے۔ اور ان میں موٹا پا ظاہر ہوگا۔ (صحاح ستہ) ایک روایت
میں ہے پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔“

حضور ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے تین زمانے ہی خیر ہیں پھر جھوٹ اور گناہ پھیل
جائیں گے۔ اس لئے جو امام مجتہد ان تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کا ہے وہ سب
سے خیر ہے۔

دنیا میں موجود مذاہب

جن مجتہدین کے پورے پورے مذاہب ملتے ہیں وہ صرف چار ہی ہیں:

① امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ② امام مالک رحمہ اللہ

③ امام شافعی رحمہ اللہ ④ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ

اور کسی مجتہد کا پورا پورا مذہب نہ منقول ہے نہ دنیا بھر میں کہیں موجود۔ اس لئے ان کے
مذہبوں کی تو پیروی ہی ناممکن ہے۔

مگر خود ان (مذکورین) میں سے بھی زیادہ خیر والا مذہب تابعی امام کا ہی ہو سکتا ہے۔

اگر مجتہدین صحابہ رضی اللہ عنہم کا پورا پورا مذہب مدون ہوتا تو وہ اعلیٰ ہوتا پھر تابعین میں بھی کسی اور کا پورا مدون ہوتا تو تقابل ہو سکتا تھا۔ تابعین میں سے صرف انہی (ابو حنیفہ رحمہ اللہ) کا ہے وہی سب سے خیر ہے۔

چوتھی صدی کے بعد اجتہاد مطلق ختم

دوسری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ تینوں خیر زمانوں کے بعد فواحش، جھوٹ اور گناہ پھیل جائیں گے اس لئے وہ خیر نہیں رہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کے اثرات کچھ چوتھی صدی تک تو چلیں گے، چوتھی صدی کے بعد اجتہاد کا سلسلہ بند ہو جائے گا کہ غلبہ خواہشات میں اجتہاد یعنی قرآن و حدیث کے مفہومات میں مراد الہی کی تعیین اضحلال دین و قویٰ کی وجہ سے مسدود ہو جائے گی۔ اجتہاد مطلق ختم، صرف انہی کے اصول کے تحت مراد الہی معلوم کی جاسکے گی۔

تابعین کی مقبولیت مسلم ہے

اور ہر مرتابعی کو قبول کا درجہ عطا شدہ ہے۔ ارشاد الہی ہے:

(وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَرْحَمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُو عَنْهُ) [التوبہ: ۱۰۰]

”جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا اتباع کیا خلوص دل سے، اللہ تعالیٰ

ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔“

ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حضور ﷺ سے روایت ہے:

((لا تَمَسُّ النَّارَ مُسْلِمًا رَأَىٰ أَوْ رَأَىٰ مِنْ رَأَىٰ))

”اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھ کو دیکھا، یا اسے

دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔“ [مجمع الفوائد: ۲ / ۲۰۱]

تابعی کی تعریف

تابعی کی تعریف تدریب الراوی میں امام نووی رحمہ اللہ نے یہ کی ہے:

((وقیل ہو من لقیہ (الصحابی) وان لم یصحبه کما قیل
فی الصحابی وعلیہ الحاکم۔ قال ابن الصلاح وهو اقرب،
قال المصنف وهو الاظهر قال العراقي علیہ عمل
الاكثرین من اهل الحديث))

”بتایا گیا ہے کہ تابعی وہ ہے جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو
اگرچہ ساتھ نہ رہا ہو۔ جیسے کہ صحابی کے بارے میں بھی یہی
ہے۔ جیسا کہ حاکم (صاحب مستدرک) کا یہی مذہب ہے۔ ابن
صلاح کہتے ہیں: یہی زیادہ قریب حق کے ہے۔ امام
ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی زیادہ ظاہر ہے۔ عراقی کہتے ہیں اکثر
علمائے حدیث کا اسی پر عمل ہے۔“

اور حافظ ابن حجر شرح منجہ میں کہتے ہیں یہی مختار ہے۔ برخلاف ابن لوگوں کے جو
زیادہ ساتھ رہنے یا حدیث سننے یا عقل تمیز کی شرط لگاتے ہیں۔
اوپر جو نمبر ۲ کی حدیث ہے اس میں صاف ”رانی“ (دیکھا) کا لفظ ہے۔ اس
لئے جیسے ملاقات سے صحابی ہونا ثابت ہوتا ہے صرف ملاقات سے ہی تابعی ہونا
ثابت ہوگا۔ اگر دیر تک ساتھ رہنا یا حدیث کا سننا بھی ہو جائے تو اعلیٰ درجہ ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ تابعی ہیں

علامہ شامی رحمہ اللہ نے بیس صحابہؓ کے نام ذکر کیے ہیں جن سے امام صاحب رحمہ اللہ کی

ملاقات ہوئی ہے۔ [۵۹/۱]

①	ابن نفیل	②	واثلہ
③	عبداللہ بن عامر	④	ابن ابی اوفی
⑤	ابن جزء	⑥	عتبہ
⑦	مقداد	⑧	ابن یسر

ابن ثعلبہ	۹	سہل بن سعد	۱۰
انس	۱۱	عبدالرحمن بن یزید	۱۲
محمود بن لبید	۱۳	محمود بن الربیع	۱۴
ابو امامہ	۱۵	ابو الطفیل	۱۶
عمرو بن حرث	۱۷	عمرو بن سلمہ	۱۸
ابن عباس	۱۹	سہیل بن حنیف	۲۰

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جن صحابہ رضی اللہ عنہم سے حدیث روایت کی اور جن صحابہ سے احادیث روایت کی ہیں وہ درمختار میں علامہ شمس الدین کی الفیہ مسماً بہ ”جواهر العقائد ودر القلائد“ کے ان شعروں میں ہے ۔

وقد روی عن انس وجاب
وابن ابی اوفی وكذا عن عام
اعنی ابی الطفیل ذا ابن وائلہ
وابن انیس الفتی ووائلہ
عن ابن جزء قد روی الامام
وبنت عجر دہی التما

امام صاحب نے حدیث روایت کی ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ	۱	حضرت جابر رضی اللہ عنہ	۲
ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے	۳	عامر رضی اللہ عنہ (ابو الطفیل بن وائلہ)	۴
ابن انیس رضی اللہ عنہ	۵	وائلہ سے	۶
ابن جزء رضی اللہ عنہ	۷	بنت عجر دہ سے	۸

امام صاحب نے روایت کی یہ پورے آٹھ ہیں۔

ابن حجر پیشی رحمہ اللہ نے یہ اور زیادہ بتائے ہیں:

سہیل بن سعد رحمہ اللہ

سائب بن یزید رحمہ اللہ

غلط فہمی کا ازالہ

بعض لوگوں نے بعض ان روایات کو جن میں ان (امام صاحب) کا ذکر آتا ہے ضعیف اور غیر صحیح قرار دیا ہے۔ دراصل ان کو اردو محاورے سے خود دھوکہ ہوا ہے یا قصداً دھوکہ دیتے ہیں کہ اردو میں صحیح کے مقابلے میں غیر صحیح یعنی غلط، بے اصل گھڑی ہوئی بات ہوتی ہے۔

اس محاورے سے کسی چیز کو صحیح نہ قرار دیں تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ غلط اور بے اصل بات ہے۔ حالانکہ یہ اصول حدیث کی اصطلاح نہیں ہے۔ (چنانچہ محدثین کے یہاں کسی حدیث کو یہ کہنا کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ غلط اور بے اصل ہے۔ (۱۲خ))

حدیث صحیح کی تعریف

محدثین کی اصطلاح میں صحیح حدیث وہ ہے جو تمام شرائط کی جامع ہو اور جس میں ایک شرط کی بھی کمی ہو تو غیر صحیح ہے مگر بے اصل نہیں ہے، غلط نہیں، گھڑی ہوئی نہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ اس سے حلت و حرمت ثابت نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا:

﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ۶]

”جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو۔“

فاسق کی روایت کو مردود نہیں کہا، بے اصل نہیں قرار دیا، غلط نہیں فرمایا ”اس کی تحقیق کر لو“ فرمایا۔

یعنی اگر اور جگہ اس کی تصدیق و تائید ہوتی ہو تو وہ قابل قبول ہے یہ تو احکام حلال و حرام کے معاملہ میں ہے اور کسی کے حالات و فضائل تو تاریخی چیز نہیں اس میں ضعیف

بھی معتبر ہوگی۔

اور پھر بیس روایتیں جو ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں ان کے لئے ضعیف کہنا خود ضعیف ہو گیا۔

امام صاحب رحمہ اللہ کی مرویات کے صحیح ہونے کی وجہ

علامہ شامی رحمہ اللہ نے ”عقد اللالی والمرجان“ سے نقل کیا ہے کہ محدثین کا قاعدہ ہے:

((راوی الاتصال مقدم علی راوی الارسال او الانقطاع

لان معه زیادة علم))

”متصل سند ہونے کا راوی مرسل و منقطع ہونے کے راوی سے

مقدم ہے، کیونکہ اس میں علم کی زیادتی ہے۔“

لہذا جو جو روایتیں بھی ایسی ہوں گی جن کی سند متصل نہ ہوگی ان سے متصل سند والی

روایات مقدم ہیں۔ لہذا ان (امام صاحب رحمہ اللہ) کی صحابہ رحمہم سے روایت اور ملاقات کی روایتیں عدم ملاقات کی روایات سے مقدم و معتبر ہیں۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے مخالفوں کی بات نقل کر کے لکھا ہے:

((ومما رواه لانس وعمرو وادراکه لجماعة من

الصحابة بالیقین صحیحان لا شک فیہما))

”حضرت انس رحمہ اللہ سے روایت حدیث اور عمرو سے اور صحابہ کی

جماعت سے دونوں ایسے ہیں کہ ان میں کسی کو شک نہیں۔“

امام صاحب رحمہ اللہ علم باطن میں ہم عمروں سے اعظم تھے

در مختار شامی رحمہ اللہ میں ہے استاذ ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ اپنے رسالہ میں باوجود

اپنے مذہب (شافعی) میں سخت ہونے کے اور طریقت میں پیش پیش ہونے کے فرماتے

ہیں: میں نے استاذ ابو علی الدقاق رحمہ اللہ سے سنا ہے فرماتے تھے میں نے طریقت کو حاصل کیا ہے حضرت ابو القاسم نصر آبادی رحمہ اللہ سے اور ابو القاسم فرماتے تھے کہ میں نے اس کو حاصل کیا ہے حضرت شبلی رحمہ اللہ سے اور انہوں نے اخذ کیا تھا حضرت سری سقطی رحمہ اللہ سے اور انہوں نے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ سے اور انہوں نے حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ سے اور انہوں نے علم شریعت اور طریقت دونوں اخذ کیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ اور ان کے پیر حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کی بزرگی اور طریقت کا اعلیٰ ترین درجہ سب کو معلوم ہے تو جن حضرات سے ان کو یہ درجہ حاصل ہوئے ہیں:

قیاس کن زگلستان من بہار مرا
خیال کیجئے وہ کیا ہوں گے

امام صاحب رحمہ اللہ کی دنیا سے بے رغبتی

مشکوٰۃ کے اسماء الرجال میں امام صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں مذکور ہے کہ حکم بن ہشام کہتے ہیں مجھے شام میں امام اعظم رحمہ اللہ کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ امانت دار تھے۔ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ یا تو میرے خزانوں کی کنجیاں لے کر متولی بن جائیں یا ان کی کمر پر کوڑے لگائے جائیں، تو انہوں نے ان کی سزا کو اللہ تعالیٰ کے عذاب پر اختیار کر لیا۔ اور روایت کیا گیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کا ذکر عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے سامنے کیا گیا، تو کہا: کہ تم ایسے شخص کا ذکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی گئی تو وہ اس سے بھاگ گیا۔

شریک نخعی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ابو حنیفہ کی طویل خاموشی، دائمی فکر اور لوگوں سے کم کلام کرنا یہ سب سے واضح علامت ہے علم باطن اور دین کے اہم امور میں مشغولی کی۔ اور پھر یہ کہ جس کو خاموشی اور زہد دیا گیا اس کو کل علم دے دیا گیا۔

ائمہ طریقت کے امام اعظم رحمہ اللہ

آپ علم ظاہر و باطن میں اعظم ترین تھے بہت سے معروف اولیاء اللہ آپ کے تتبع ہوئے ہیں۔ اگر کسی بات میں ذرا سا بھی شبہ پیش آتا تو وہ کبھی ان کا اتباع نہ کرتے، نہ اقتداء کرتے نہ موافقت کرتے۔ مثلاً:

- ① حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ جو شاہزادے تھے پھر ایک غیبی آواز پر صوفی ہو گئے تھے
- ② حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ کے استاد۔ ③ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ جن کی قبر پر دعاء مانگنے سے بارش طلب کی جاتی ہے جو حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کے استاد تھے
- ④ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ مشہور شیخ المشائخ ⑤ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے شاگرد، امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد اور بخاری و مسلم کے راوی
- ⑥ حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ ⑦ حضرت ابو حامد اللقاف رحمہ اللہ مشائخ خراسان میں سے
- ⑧ حضرت خلف بن ایوب رحمہ اللہ جن کا بیان یہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منتقل ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم پر، پھر ان سے تابعین پر، پھر ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، اب جس کا جی چاہے راضی ہو جس کا جی چاہے ناراض ہو۔ ⑨ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فقیہ و محدث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد۔ ⑩ حضرت وکیع بن الجراح صائم الدہر ہر رات ایک قرآن ختم کرنے والے۔ ⑪ ابو بکر الوراق بلخی رحمہ اللہ شارح مختصر الطحاوی
- ⑫ حضرت حاتم الاصم رحمہ اللہ حضرت محمد شاذلی وغیرہ وغیرہ۔ (درشامی)

علم ظاہر میں سب سے اعظم

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مدح میں جو قصیدہ کہا اس میں یہ شعر بھی ہیں۔

وقد قال ابن ادریس م قالاً

صحيح النقل في حكم لطيفه

”حضرت محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بات فرمائی ہے جس کی نقل صحیح اور اس میں باریک حکمتیں ہیں۔“

بأن الناس في فقه عيال

على فقه الامام ابو حنيفة

”کہ سب لوگ دین کی سمجھ پر امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔“

امام شافعی رحمہ اللہ کی تو یہ شہادت ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے صاحب مشکوٰۃ نے

اسماء الرجال ص: ۶۲۳ پر لکھا ہے۔

قال الشافعي قيل لمالك هل رأيت ابا حنيفة؟

قال نعم! رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية ان

يجعلها ذهابا لتمام بحجة۔

”امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام مالک رحمہ اللہ سے عرض کیا گیا:

کیا آپ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں: ایسے آدمی

کو دیکھا ہے کہ اگر وہ اس ستون کے بارے میں تم سے کلام

کرے کہ اس کو سونے کا ثابت کرے تو وہ پختہ دلیل قائم کر دے

گا۔“

امام صاحب کے ذہن اور عقل کا اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور پھر صاحب

مشکوٰۃ نے یہ قول بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا لکھا ہے:

من اراد ان يتبحر في الفقه فهو عيال ابي حنيفة۔

”جو شخص فقہ یعنی دین کی سمجھ میں ماہر ہونا چاہے تو وہ ابو حنیفہ

رحمہ اللہ کا ہی محتاج ہے۔“

اس کے ساتھ یہ حکم بھی لگالیں۔

من يرد الله خيرا يفقهه في الدين۔

”جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ

عطا فرما دیتے ہیں۔“

تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہوا کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ خیر کا انعام فرماتے ہیں: وہ امام ابو حنیفہ کے دامن میں پناہ لیتا ہے۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ کی شہادت

((قال احمد بن حنبل في حقه انه كان من العلم والورع

والزهد واشار الآخرة بمحل لا يدركه احد ولقد ضرب

بالسياط ليلي القضاء فلم يفعل)) [شامی ج ۱ ص ۵۶]

”امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے

ہیں وہ تو علم و تقویٰ، زہد اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے

ہیں۔ ایسے مرتبہ پر تھے جسے کوئی نہیں پاسکتا وہ کوڑوں سے اس پر

مارے گئے کہ قاضی ہونا اختیار کریں مگر نہیں کیا۔“

تذکرۃ الحفاظ ص ۱۶۰ پر ہے:

((قال ابو داود رحمهم الله ابا حنيفة كان اماما))

”امام ابو داؤد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر رحمت نازل فرمائے

وہ تو امام تھے۔“

مناقب القاری ص ۴۵۶ پر ہے۔

((ذكر الامام الاسفر اثيني باسنادة الى علي بن المديني سمعت

عبدالرزاق يقول لمعمر ما عرف احد بعد الحسن يتكلم في الفقه

احسن معرفة منه))

”امام اسفرائینی نے اپنی سند سے علی المدینی سے روایت کرتے

ہیں، کہتے ہیں کہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ معمر کہتے تھے کہ حسن

بصری رحمہ اللہ کے بعد فقہ میں کلام کرتے کوئی ان (ابو حنیفہ) سے بہتر علم سے ثابت کرتا ہوا مجھے معلوم نہیں۔“

امام صاحب رحمہ اللہ کی عظمت کا اعتراف

مشکوٰۃ کے آخر میں جن کے متعلق مشکوٰۃ کی اسناد احادیث میں کوئی ذکر آیا تھا ان کا اسماء الرجال ہے۔ اس میں امام اعظم رحمہ اللہ کے لئے بہت لوگوں سے تذکرہ کرنے کے بعد کہا ہے:

((ولو هبنا الى شرح مناقبه وقضائه لا طلنا الخطب ولم نصل الى الغرض فانه كان عالما، عاملا، ورعا، زاهدا، عابدا، اماما في العلوم الشرعية والغرض ما يراى ذكره في هذا الكتاب وان لم نراعنه حديثا في المشكوٰة للتبرك بالعلوم مرتبه ووفور علمه))

”اگر ہم ان کی تعریفوں اور خصلتوں کی تفصیل میں جاتے تو کلام طویل کر دیتے اور غرض پوری نہ پاسکتے، کیونکہ وہ عالم باعمل، متقی، زاہد، عبادت گزار اور شریعت کے سب علموں میں امام تھے، اور اس کتاب میں ان کے ذکر کی غرض اگرچہ ہم نے ان سے مشکوٰۃ میں کوئی حدیث نہیں لی ہے ان کے بلند مرتبہ اور کثیر علم سے برکت حاصل کرتا ہے۔“

علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ”تبيين الصحيفه“ ص ۲۸ پر ہے کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے شفیق رحمہ اللہ سے سنا، کہتے تھے میری آنکھ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اسی کتاب کے ص ۲۲ پر عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قصیدہ ہے جس میں یہ شعر ہے:

اذا ما المشكلات تدا فعتها

رجال العلم كان بها بصيرا

”جب بھی علمی نکات میں اہل علم ایک دوسرے سے کشاکش کرتے تو امام صاحب ہی اس کے دانا و بینا نکلتے تھے۔“

یکتائے زمانہ عالم

”تنویر الصحیفہ“ مصنفہ علامہ یوسف بن عبدالبہادی رحمۃ اللہ علیہ جناب رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے:

((لا تتکلم فی ابی حنیفہ بسوء ولا تصدقن احد یسیئ
القول فیہ فانی واللہ ما رأیت افضل ولا اورع ولا افقہ
منہ)) [شامی]

”ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی برائی سے بات نہ کیا کرو اور
کسی کی ایسی بات سچ نہ مانو جو ان کے بارے میں بری بات
کہے، کیونکہ قسم خدا کی میں نے ان سے افضل، ان سے بڑا متقی اور
ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔“
حافظ سمعانی کتاب الانساب ۲۴۷ پر امام صاحب کے حالات میں لکھتے ہیں:

”حصل له مالم يحصل لغيره۔“

”ان کو وہ علم حاصل ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔“

آگے لکھا ہے ایک دن منصور کے پاس گئے اور اس کے پاس عیسیٰ بن موسیٰ تھے
انہوں نے منصور سے کہا: ”یہ آج ساری دنیا کا یکتا عالم ہے۔“

علامہ حافظ مرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تہذیب الکمال“ میں لکھا ہے کہ مکی بن
ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تو کہا: کان اعلم زمانہ ”آپ زمانے کے
سب سے بڑے عالم تھے۔“ یہ مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں
سے ہیں۔

عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ کی جامع العلم کتاب سے ”جو اہر مضمیہ“ میں نقل ہے کہ میں

نے ایک ہزار علماء کو دیکھا اور ان میں سے اکثر سے علم حاصل کیا ان میں پانچ بہت فقیہ، بہت متقی، بڑے عالم پائے جن میں اول ابو حنیفہ تھے۔ [۲۹/۱]
شامی نے ج ۱ ص ۵۱ پر امام غزالی کا قول احیاء علوم سے نقل کیا ہے:

((اما ابو حنیفۃ فلقد کان ایضا عابدا، زاهدا، عارفا،

کاملا، خائفا للہ مریدا وجہ اللہ تعالیٰ بعلمہ الخ))

”اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی عبادت گزار، زاہد، عارف کامل، خوف

و خشیت والے تھے اپنے علم سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی دھن

رکھنے والے تھے۔“

امام صاحب رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کا ان سے کسب فیض وادب

اسی صفحہ پر آگے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر آتا رہتا ہوں، اور جب مجھے کوئی حاجت پیش آئے تو میں دو رکعت نماز پڑھتا اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اور ”منہاج“ (فقہ شافعی کی کتاب) کے حاشیہ میں ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے صبح کی نماز امام صاحب رحمہ اللہ کی قبر کے پاس پڑھی تو اس میں دعائے قنوت (جو ان کے نزدیک سنت ہے حنفیہ کے یہاں نہیں) نہیں پڑھی۔ ان سے عرض کیا گیا، تو فرمایا: ان صاحب قبر کے ادب کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حاسد کو جلانے اور جاہل کو بتانے کے لئے تاکہ وہ واجب نہ سمجھے ایسا کرنا درست تھا۔

امام صاحب رحمہ اللہ کے علوم کا نفع عام و تمام

صفحہ ۵۲ پر شیخ ابن حجر کہتے ہیں: بعض ائمہ نے فرمایا ہے کہ اسلام کے مشہور ائمہ میں سے کسی سے اتنا دین نہیں پھیلا جتنا ان سے پھیلا ہے، ان کے ساتھیوں، شاگردوں نے، تمام علماء اور سب لوگوں نے جتنا نفع ان سے حاصل کیا کسی سے نہیں کیا۔ روایت کیا گیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ سے ان کا مذہب چار ہزار نفر نے نقل کیا پھر ان کے شاگرد در شاگردوں نے۔


ملفوظات امام اعظم ابوحنيفه رحمۃ اللہ علیہ

ماخوذ

البلاغ

ترجمہ و ترتیب

حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی مدظلہ



ملفوظات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ

امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ

(ولادت ۸۰ھ..... وفات ۱۵۰ھ)

① فرمایا: رسول اللہ ﷺ کی حدیث آجائے تو سر آنکھوں پر، اور اگر (کسی مسئلہ میں) صحابہ رضی اللہ عنہم سے اقوال ہوں تو ہم انہیں میں سے کسی کا قول لیں گے اور ان سے خروج نہیں کریں گے البتہ اگر تابعین (یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اپنے ہم عصر علماء) کے اقوال ہوں تو ان کے مقابلے میں ہم اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔

② فرمایا: کسی کے لیے یہ جائزہ نہیں کہ وہ کتاب اللہ، یا سنت رسول اللہ یا اجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف اپنی رائے پیش کرے۔ ہاں جن مسائل میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال میں سے وہ قول اختیار کرتے ہیں جو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کے قریب ترین ہو اور یہی اجتہاد کا محل ہے۔

③ فرمایا: اگر دین میں تنگی ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی فتویٰ نہ دیتا۔ جن چیزوں کی بدولت جہنم میں جانے کا خوف ہو سکتا ہے ان میں سب سے خوفناک چیز فتویٰ ہے۔

④ فرمایا: جب سے سمجھ آئی ہے میں نے کبھی اللہ تعالیٰ پر جرات نہیں کی۔ (یعنی مسئلہ بتا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نسبت نہیں کی)۔

⑤ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کسی مسئلہ میں اشکال ہو جاتا اور وہ حل نہ ہوتا تو آپ اپنے اصحاب سے فرماتے ”یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے جو مجھ سے سرزد ہوا“ پھر استغفار شروع کر دیتے اور اکثر وضوء کر کے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز توبہ پڑھتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو فرماتے یہ ایک درجہ کی بشارت ہے، مجھے امید ہوتی ہے کہ توبہ قبول ہوگئی اور

مسئلہ سمجھ میں آگیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس عمل کی اطلاع مشہور بزرگ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کو ہوئی تو وہ رونے لگے اور فرمایا اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر رحم کرے ان کے گناہ تو کم ہیں (اس لیے انہیں اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا) لیکن کسی دوسرے کو یہ خیال نہ ہوگا کیونکہ اسکے گناہوں نے تو اسے غرق کر رکھا ہے۔

⑥ امام صاحب جارہے تھے تو غلطی سے ایک بچے کے پاؤں پر پاؤں آگیا اور وہ نظر نہ آیا۔ بچہ نے کہا اے شیخ کیا تو روز قیامت کے بدلہ سے نہیں ڈرتا؟ تو امام صاحب پر غشی طاری ہوگئی جب افاتہ ہوا تو آپ سے کہا گیا کہ اس جملہ کا اتنا اثر؟ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ مخائب اللہ اس بچہ کے دل میں یہ جملہ ڈالا گیا ہے۔

⑦ امام کے ایک مخالف نے بحث کرتے ہوئے امام صاحب کو کہا اے بدعتی اے زندیق! امامؑ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، اللہ جانتے ہے کہ تم نے غلط کہا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد اب مجھے کسی کی پروا نہیں، ہاں اس سے معافی کا خواستگار ہوں اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں..... اس شخص نے کہا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا: جس جاہل نے مجھے جو کچھ کہا میں نے اسے معاف کیا لیکن جو عالم میرے بارے میں ایسی بات کہے جو مجھ میں نہیں تو اس کا معاملہ تنگ ہے کیونکہ علماء کی غیبت کے اثرات بعد میں بھی باقی رہتے ہیں۔

⑧ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے کوئی شخص دوسروں کی باتیں نقل کرتا تو آپ اسے روک دیتے اور فرماتے: لوگوں کی ان ناپسندیدہ باتوں کو نقل کرنا چھوڑ دو۔ جس نے ہمارے بارے میں غلط بات کہی اللہ اسے معاف کرے، اور جس نے ہمارے بارے میں اچھی بات کہی اللہ اس پر رحم کرے۔ (لوگوں کی باتیں نقل کرنے کے بجائے) اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کرو اور لوگوں کی باتیں چھوڑ دو۔ وہ جانیں اور ان کا کام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمہارا محتاج بنا دے۔

⑨ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ علقمہ افضل تھے یا اسود رحمہ اللہ؟ فرمایا اللہ کی قسم میں تو اپنے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے دعا استغفار کے علاوہ ان کا نام اپنی زبان پر لاؤں میں ان کے درمیان کیا ترجیح دے سکتا ہوں؟

۱۰ ان سے عرض کیا گیا لوگ آپ کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں مگر آپ کسی کا ذکر نہیں کرتے، فرمایا **فَضَّلُ اللّٰهُ يَوْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ**۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔

۱۱ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تجارت بہت وسیع تھی جو نفع حاصل ہوتا اس کا ایک بڑا حصہ اپنے مشائخ محدثین کی خدمت کرتے اور فرماتے: آپ اسے اپنی ضروریات میں خرچ فرمائیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، کیونکہ میں نے اپنے مال میں سے کچھ نہیں دیا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مال اور اس کا فضل ہے جسے اس نے میرے ہاتھ سے جاری فرمادیا ہے۔

۱۲ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہوتا کہ علم ضائع ہو جائے گا تو میں کسی کو فتویٰ نہ دیتا۔ راحت تو وہ اٹھائیں اور گناہ مجھ پر ہو!۔

۱۳ فرماتے تھے: کہ میں نے کبھی کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ اور میں نے کبھی کسی پر لعنت نہیں کی۔ اور میں نے کسی مسلمان یا ذمی کا فر پر کبھی ظلم نہیں کیا۔ اور میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا نہ کسی سے خیانت کی ہے۔

۱۴ فرمایا جو وقت سے پہلے بڑا بننے کا خواہشمند ہوتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔

۱۵ فرمایا اگر علماء اولیاء اللہ نہیں تو پھر دنیا و آخرت میں کوئی ولی اللہ نہیں۔

۱۶ فرمایا: جسے اس کا علم حرام چیزوں سے نہ روکے تو وہ خسارہ میں ہے۔

۱۷ ایک شخص نے امام ابو حنیفہؒ سے پوچھا کہ تفقہ حاصل کرنے کے لیے کونسی چیز مددگار ہے فرمایا یکسوئی اختیار کرنا۔ اس نے پوچھا کہ یکسوئی کیسے حاصل ہوگی فرمایا تعلق اور غیر متعلق چیزوں کے کم کرنے سے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے کم ہوگی فرمایا جس چیز کی جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ نہ لو۔

۱۸ صبح کی نماز کے بعد کچھ لوگوں نے مسائل پوچھے، امام صاحبؒ نے ان کا جواب دیا، کسی نے پوچھا کیا بزرگ اس وقت میں خیر کی بات کے سوا فضول باتیں کرنے سے منع نہیں کرتے تھے، امام صاحبؒ نے فرمایا: اس سے بڑھ کر خیر کی بات کیا ہوگی کہ حلال و حرام بتا دیا جائے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور

لوگوں کو اس سے بچاتے ہیں۔

[19] ایک آدمی کسی کی سفارش لے کر آیا کہ آپ مجھے علم سکھا دیں۔ امام نے فرمایا: اس طرح علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اسے بیان کریں اور علم نہیں چھپائیں گے۔ پھر فرمایا کہ عالم تو محض لوجہ اللہ علم سکھاتا ہے اس کے خصوصی راز دار نہیں ہوتے۔

[20] ایک صاحب سے فرمایا جب میں چل رہا ہوں، یا لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ یا سو رہا ہوں یا آرام کر رہا ہوں تو ان اوقات میں مجھ سے دین کی بات نہ پوچھا کرو کیونکہ ان اوقات میں آدمی کے خیالات مجتمع نہیں ہوتے۔

[21] ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلافات اور جنگ صفین کے مقتولین کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا:

”جب اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ فرمائے گا، ہاں جن چیزوں کا مجھے مکلف کیا گیا ہے مجھ سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، لہذا میں انہی چیزوں میں مشغول رہنا پسند کرتا ہوں“ (جن کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا)۔

[22] فرمایا: مجھے ان لوگوں پر بہت حیرانی ہوتی ہے جو دین کے بارے میں محض اندازہ سے بات کرتے ہیں۔

[23] فرمایا جو شخص دنیا کے لیے علم سیکھتا ہے وہ علم کی برکت سے محروم رہتا ہے، اسے علم کا رسوخ حاصل نہیں ہوتا نہ مخلوق خدا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص علم دین دین کے لیے سیکھتا ہے اسے علم کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اسے علم میں رسوخ کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے والے اس کے علم سے نفع اٹھاتے ہیں۔

[24] ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ سے فرمایا اے ابراہیم آپ کو عبادت کا بڑا نیک حصہ نصیب ہوا ہے آپ علم کی طرف بھی توجہ رکھئے کیونکہ علم دین عبادت کی بنیاد ہے اور اسی سے دینی اور دنیوی امور درست ہوتے ہیں۔

25 فرمایا جو حدیث تو پڑھے مگر انہیں سمجھتا نہ ہو وہ اس شخص کی طرح ہے جو دو واؤں کو اپنے پاس جمع تو کر لے مگر ان کے آثار و خواص (اور طریق استعمال) سے پوری طرح واقف نہ ہو۔

26 فرمایا جب دنیا کا کوئی کام کرنا ہو تو پہلے کام پورا کرو پھر کھانا کھاؤ۔

27 خلیفہ منصور نے ان سے کہا آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ فرمایا مجھے اپنی کسی چیز پر آپ کا ڈر نہیں، اگر آپ مجھے اپنے قریب کریں گے تو فتنہ میں مبتلا ہوں گا پھر دور کریں گے تو رسوائی مقدر ہوگی۔

28 ایسی ہی بات کوفہ کے گورنر نے کہی تو جواب میں فرمایا: روٹی کا ٹکڑا۔ پانی کا گلاس، پوسٹین کا لباس اس عیش سے بہتر ہے جس کے بعد (دنیا و آخرت میں) شرمندگی ہو۔

29 جب آپ کے سامنے کسی کا ذکر کیا جاتا تو فرماتے: کسی کی ایسی بات ہمارے سامنے نقل مت کرو جو اسے ناپسند ہو۔ جس نے ہمارے بارے میں کوئی غلط بات کہی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور جس نے ہمارے لیے کوئی اچھا جملہ کہا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔

30 فرمایا دین میں تفقہ حاصل کرو اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ خود انہیں تمہارا محتاج کر دیں گے۔

31 فرمایا: جو آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہو اس کے لیے دنیا کی تکلیف کچھ نہیں، اور جو اپنے نفس کی عزت کرتا ہو (یعنی دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہو) تو دنیا اس کے سامنے ذلیل ہے۔

32 فرمایا اپنے لیے گناہوں کا انبار اور اپنے وارثوں کے لیے مال و دولت جمع مت کرو۔

33 فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس سے بھی قتال کیا ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق میں پیش پیش تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ واقعات پیش نہ آتے تو باغیوں کے شرعی احکام سمجھ میں نہ آتے۔

34 امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا جب جواب ملا تو سوال کرنے والے نے

کہا جب تک آپ زندہ ہیں اس شہر میں خیر ہی خیر ہے: فرمایا علاقے خالی ہو گئے تو مجھے بلا کسی خواہش کے بڑا سمجھا جانے لگا ہے، مگر یہ بڑائی مجھ پر بہت بھاری ہے۔

[35] مشہور تابعی اعمش سے چند مسائل کے بارے میں سوال کیا گیا وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت اعمش نے امام صاحب سے کہا آپ جواب دیدیتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیئے تو انہوں نے پوچھا آپ نے یہ مسائل کہاں سے لئے؟ فرمایا انہی احادیث سے جو میں نے آپ سے روایت کی ہیں اور پھر وہ احادیث سنائیں تو اعمش نے فرمایا میں نے جو احادیث سودن میں آپ کو سنائی تھیں وہ (یعنی ان کا خلاصہ) آپ نے مجھے تھوڑے سے وقت میں بیان کر دیا۔ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ آپ ان احادیث پر اس طرح سے بھی علم کریں گے۔ پھر اعمش نے فرمایا: اے فقہاء کرام! تم طیب ہو اور ہم تو صرف دو فروش ہیں اور اے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ! تم نے یہ دونوں حصے جمع کر رکھے ہیں (یعنی آپ کے پاس روایت بھی ہے اور درایت بھی)

[36] حضرت وکیع بن الجراح ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے دیکھا گردن جھکائے ہوئے سوچ بچار میں ہیں پوچھا: وکیع کہاں سے آرہے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں صاحب کے پاس سے (وہ صاحب امام صاحب پر اعتراضات کیا کرتے تھے) امام صاحب نے شعر پڑھا.....

ان یحسدونی فانی غیر قبلی من الناس اهل الفضل قد

لائمہم حسدوا

فدام لى ولهم مابى وما بهم ومات اکثرنا غیظا بما یجد

”اگر لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں ان پر کوئی ملامت نہیں کرتا

کیونکہ مجھ سے پہلے جو لوگ اہل کمال تھے ان پر بھی حسد کیا گیا جو

میرے پاس ہے وہ میرے پاس رہے اور جو ان کے پاس ہے وہ ان

کے پاس رہے اور ہم میں سے جو زیادہ غصہ میں ہے وہی اپنے غصہ

میں جلے گا۔“

[37] امام شعیبی رحمۃ اللہ علیہ (مشہور تابعی امام عامر بن شراحیل الشعمی) نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم کی طرف متوجہ کیا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”ایک دن میں امام شعیبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا تم کہاں آتے جاتے ہو، میں نے کہا فلاں فلاں (تاجر) کے پاس۔ فرمایا: میں بازار کی بات نہیں پوچھ رہا، علماء کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں ان کے پاس کم جاتا ہوں۔ فرمایا ایسا نہ کرو تم علماء کے پاس جایا کرو، اور علم میں غور و فکر کیا کرو، کیونکہ تم ایک متحرک اور صاحب بصیرت نوجوان نظر آتے ہو۔ شعیبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی اور میں نے بازار جانا کم کر دیا اور علم حاصل کرنا شروع کیا اور ان کی بات سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت فائدہ دیا۔

[38] امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: مجھے (جوانی میں) علم کلام اور مناظرہ کا شوق تھا یہاں تک کہ میں اس میں مشہور ہو گیا۔ بحث میں مجھ سے جیتنا مشکل تھا، زیادہ تر بحث و مناظرہ بصرہ میں ہوتا تھا چنانچہ جو بیس مرتبہ میرا بصرہ جانا ہوا اور کبھی سال بھر بھی رہنا پڑا میرا زیادہ مناظرہ خوارج کے ابا ضیہ اور صغریہ سے اور حشویہ سے ہوتا رہا۔ اس دور میں علم کلام کو افضل ترین علم سمجھتا تھا۔ لیکن کچھ زمانہ گزرنے کے بعد غور کیا اور میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور کبار تابعین ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے زیادہ ماہر تھے مگر انہوں نے ان مسائل میں بحثیں نہیں کیں۔ نہ وہ مناظرے کرتے تھے، نہ مجادلہ اور نہ ان بحثوں میں پڑتے تھے وہ نہ صرف ان باتوں سے خاموش رہے بلکہ انہوں نے ان چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تو شریعت کی نصوص اور ان کی فقہ میں غور کرتے تھے، ان کی مجلسیں بھی اسی پر ہوتی تھیں اور یہی ان کا مطمع نظر رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتے تھے اور انہیں باتوں کے سیکھنے کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ علم کلام اور مناظروں سے وابستہ ہیں ان کے طور طریق اور ان کے سلف صالحین کے طریقہ پر نہیں ہیں۔

اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت ہماری مجلس میں آئی، اور ہماری علم کلام

کی مجلس امام حماد بن سلیمان کی مجلس فقہ کے قریب ہی تھی۔ اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو سنت طریقہ سے طلاق دینا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے جواب معلوم نہ تھا، شرمندگی ہوئی اور میں نے اس خاتون سے کہا تم حماد بن سلیمان کی مجلس میں جاؤ، ان سے پوچھو، اور جو جواب وہ دیں مجھے آکر بتا دینا۔ اس خاتون نے مسئلہ پوچھا پھر آکر مجھے بتایا میں نے طے کر لیا کہ مجھے اس علم کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے جوتے اٹھائے اور حماد بن سلیمان کی مجلس میں آکر ان کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔

وقت گزرتا رہا، میں مسائل سمجھتا رہا، یہاں تک کہ حماد بن سلیمان نے فرمایا کہ میرے حلقہ میں سب سے آگے میرے سامنے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سوا کوئی نہ بیٹھے۔ دس سال میں حماد بن سلیمان کی مجلس میں شریک رہا۔ پھر میرے دل میں کچھ بڑائی کا خیال آ گیا اور میں نے سوچا کہ میں اپنی مجلس علیحدہ قائم کر لوں۔ ایک شام میں مسجد جانے کے لیے نکلا اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں آج سے اپنی مجلس علیحدہ جماؤں گا۔ لیکن جب مسجد میں داخل ہوا تو مجھے اچھا نہ لگا کہ میں اپنے استاد کو چھوڑ دوں۔ چنانچہ میں انہی کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسی رات بصرہ سے اطلاع ملی کہ ان کے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے وارث صرف حماد بن ابی سلیمان تھے۔ اس اطلاع پر وہ بصرہ تشریف لے گئے اور مجھے کہا کہ میری جگہ تم بیٹھا کرو۔ وہ چلے گئے اور میں مجلس میں بیٹھا تو میرے سامنے ایسے مسائل پیش کئے گئے جن کے بارے میں میں نے حماد بن ابی سلیمان سے کوئی جواب نہیں سنا تھا، میں نے ان مسائل کا جواب دینا شروع کیا اور اپنے جواب لکھ کر اپنے پاس محفوظ بھی کرنے شروع کر دیئے۔ استاد حماد دو ماہ کے بعد واپس تشریف لائے تو میں نے وہ مسائل اور ان کے جوابات جو میں نے دیئے تھے ان کی خدمت میں پیش کئے وہ تقریباً ساٹھ مسائل تھے۔ چالیس کے جواب میں انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا، البتہ بیس مسائل کے بارے میں ان کی رائے کچھ مختلف تھی۔ اس کے بعد میں نے قسم کھالی کہ میں مرتے دم تک ان سے علیحدہ نہیں ہوں گا چنانچہ ان کے

انتقال تک میں نے ان کا دامن نہیں چھوڑا۔

39 خطیب نے امام ابو یوسف اور ابو محمد الحارثی نے یثیم بن عدی سے روایت کی اور یہ دونوں حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں امام نے فرمایا: جب میں نے علم حاصل کیا تو تمام علوم اپنے سامنے رکھے، ایک ایک فن کو غور سے دیکھا اس کے منافع اور اس کے انجام کا جائزہ لیا (لیکن ہر علم میں میں نے کوئی نہ کوئی خرابی دیکھی) پھر میں نے فقہ کا جائزہ لیا جتنا میں اسے التنا پلنتا رہا اس کی عظمت کا میرے دل میں اضافہ ہوتا رہا۔ اور میں نے دیکھا کہ اس علم میں علماء، فقہاء، مشائخ اور صاحب بصیرت لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے اور ان کے اخلاق اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے اندازہ کیا کہ دینی فرائض کی (صحیح) جدوجہد، اور اللہ تعالیٰ کی (صحیح) عبادت فقہ کے بغیر ممکن نہیں، اور اسی فقہ سے دنیا و آخرت درست ہو سکتی ہے چنانچہ پھر میں اسی میں لگ گیا۔

40 هشام بن مہران فرماتے ہیں کہ شروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسائل کا جواب نہیں دیتے تھے، اور خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس علم میں اس طرح حصہ نہیں لیتا تھا جیسا کہ اب لیتا ہوں۔ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود رہا ہوں، اور وہاں سے ہڈیاں جمع کر کے انہیں ترتیب دے کر اپنے سینہ پر رکھ رہا ہوں، جب میں بیدار ہوا تو غم سے میرا وہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، میرے آنسو جاری تھے اور میں نے دل میں کہا کہ قبریں کھودنا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر! میں گھر بیٹھ گیا اور مجلس میں جانا چھوڑ دیا، میری صحت متاثر ہو گئی اور احباب میری عیادت کو آنے لگے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ بظاہر کوئی بیماری آپ کو محسوس نہیں ہوتی، قصہ کیا ہے؟ اسے میں نے اپنا خواب سنایا تو اس نے کہا یہ خواب انشاء اللہ بہتر ہے اور اس نے کہا یہاں محمد ابن سیرین (جو تعمیر کے مشہور امام اور محدث ہیں) کے ایک ساتھی ہیں ہم انہیں بلا لیں۔ میں نے کہا: نہیں میں خود ان کے پاس جاؤں گا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے کہا کہ خواب آپ کا ہے میں نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو تمہیں سنت پھیلانے کی ایسی

توفیق ہوگی جو تم سے پہلے کسی کو نہ ہوئی اور تمہیں علم میں بڑا سوخ حاصل ہوگا (دوسری روایت میں ہے کہ محمد بن سیرین سے بھی اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تھی غالباً یہی صاحب ابن سیرین رحمۃ اللہ کے پاس گئے ہوں گے اور انہوں نے آکر یہ تعبیر امام صاحب کو بتائی) جب میں نے تعبیر سنی تو میں نے اس علم میں مزید محنت شروع کی، پھر امام نے فرمایا: اے اللہ انجام بخیر فرما۔

41 فرمایا اگر رسول اللہ ﷺ سے حدیث آجائے تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے اور اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال ہوں تو ہم انہیں میں سے ایک قول اختیار کرتے ہیں ان کے اقوال سے خروج نہیں کرتے، البتہ تابعین (یعنی امام صاحب کے ہم عصر علماء) کے اقوال ہوں تو اس میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔

42 امام صاحب نے فرمایا عجیب بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں حالانکہ میرا فتویٰ تو ہمیشہ نقل پر مبنی ہوتا ہے۔

43 ایک صاحب نے عرض کیا کہ اعراض اور اجسام کے بارے میں جو اقوال بیان کئے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا یہ سب فلسفیوں کی باتیں ہیں (انہیں چھوڑو) اور سلف صالحین کے طریقہ پر نصوص و آثار کو اختیار کرو، اور دیکھو اس طرح کی نئی باتوں سے بچو یہ بدعت ہیں۔

44 حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا: کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلہ میں اپنی رائے پیش کرے۔ اسی طرح صحابہؓ کے اجماع کے خلاف بھی رائے پیش کرنا جائز نہیں ہاں جن مسائل میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اختلاف ہو تو ہم ان کے اقوال میں سے (ہمارے خیال کے مطابق) جو رائے کتاب و سنت کے زیادہ قریب نظر آئے اسے اختیار کر لیتے ہیں، ان گزشتہ مسائل کے علاوہ جو مسائل ہیں اس میں فقہاء کے اجتہاد اور قیاس کی گنجائش ہے۔

45 امام ابو یوسف فرماتے تھے کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی پہلے امام ابو حنیفہؒ کے

لیے دعا کرتا ہوں میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سنا وہ فرماتے تھے کہ میں جب بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان کو دعا میں ضرور شامل کرتا ہوں۔

46 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پہلے ڈاڑھی سنوارتے اور زینت اختیار فرماتے (پھر تہجد ادا کرتے) اور فرماتے تھے کہ میں نے تہجد میں قرآن کی ہر سورت پڑھی ہے۔

47 فرمایا اگر دین میں تنگی کا خوف نہ ہوتا تو میں لوگوں کو فتویٰ نہ دیتا۔ جہنم میں لے جانے والی سب سے خوفناک چیز فتویٰ ہے۔

48 حضرت فضل بن دین فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فرماتے سنا جو مجھ سے بغض رکھے اسے اللہ مفتی بنادے۔

49 ایک شخص نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہا کہ اللہ سے ڈریے! امام صاحب نے سر جھکا لیا چہرہ زرد پڑ گیا اور فرمایا اے بھائی! اللہ تمہیں جزاء خیر عطا کرے۔ جب لوگوں کا علم ان کی زبان پر جاری ہو تو ضرورت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی جائے تاکہ اپنے تمام اعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کریں۔

50 امام کے سامنے دوسروں کی باتیں نقل کی جاتیں تو فرماتے چھوڑو، لوگوں کی باتیں نقل مت کرو، جس نے ہمارے بارے میں غلط بات کہی اللہ اسے معاف کرے اور جس نے اچھی بات کہی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔

51 حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ایک مریض کی عیادت کے لیے جا رہا تھا، ایک آدمی نے دور سے انہیں دیکھا تو چھپنے لگا اور راستہ بدلنے لگا، امام نے زور سے اسے پکارا راستہ مت بدلو، اسی راستہ پر آؤ۔ جب اس شخص نے اندازہ کیا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے دیکھ چکے ہیں تو وہ شرمندہ ہو کر ٹھہر گیا، امام صاحب نے اس پوچھا کہ تم راستہ کیوں بدل رہے تھے؟ اس نے کہا آپ کی مجھ پر اتنی رقم ہے مدت لمبی ہو چکی ہے اور میں اب تک اس کی ادائیگی نہیں کر سکا ہوں تو

آپ کو دیکھ کر میں شرمایا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا سبحان اللہ۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے! کہ تم مجھے دیکھ کر چھپتے پھر رہے ہو، میں وہ قرض معاف کرتا ہوں اس کے بعد مجھ سے نہ چھینا اور اس عرصہ میں مجھ سے تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے وہ تم مجھے معاف کر دینا۔ شقیق بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اصل زاہد امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔

52 امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہوتا کہ علم دین ضائع ہوگا تو میں کبھی فتویٰ نہ دیتا۔ راحت ان کو ہو، اور گناہ مجھ پر! 53 امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے کبھی کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، نہ کبھی کسی پر لعنت کی، نہ کسی مسلمان یا کافر ذمی پر ظلم کیا، نہ کسی سے خیانت کی، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے۔

54 ایک شخص مسجد کے ایک کونہ میں کھڑے ہو کر امام صاحب کو برا بھلا کہنے لگا، امام ابوحنیفہؒ نے اپنے حضرات کو اس کے ساتھ بات کرنے سے روک دیا، اور خود بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے درس میں مصروف رہے، درس سے فارغ ہو کر امام صاحب چلے تو وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے چلا۔ جب امام صاحب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: یہ میرا گھر ہے، اگر کچھ اور کہتا ہے تو کہہ لو پھر میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، وہ شخص شرمندہ ہو کر رہ گیا۔

55 ایک اور روایت میں اسی طرح کا قصہ ہے کہ وہ شخص امام صاحب کو سارے راستہ برا بھلا کہتا رہا اور امام صاحب رحمہ اللہ خاموشی سے سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا، جب گھر پہنچے تو اندر جانے لگے تو وہ شخص چلا کر بولا: کیا تم مجھے کتا سمجھتے ہو؟ اندر سے جواب آیا: ہاں۔

56 ابو الخطاب جربانی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا امام صاحب نے جواب دیا تو اس نے کہا اے ابوحنیفہ رحمہ اللہ تم نے غلطی کی اہل مجلس چپ تھے میں نے کہا آپ کو اس شیخ (امام ابو

حنیفہ رحمہ اللہ کی عظمت کا احساس نہیں کہ ایک جوان آکر انہیں اس طرح کی بات کہہ جاتا ہے اور آپ سب خاموش رہتے ہو۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: انہیں کچھ مت کہو، میں نے انہیں اس کا عادی بنایا ہے۔

57 فرمایا: اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان کی عظمت کی وجہ سے میں نے کبھی ان کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے حالانکہ میرے اور ان کے گھر کے درمیان سات گلیوں کا فاصلہ ہے۔

58 امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا گزر اپنی تجارت پر تھا اور لوگوں سے ہدایا کم لیتے تھے اور شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے:

عرش والے کی عطائیں تمہارے عطیات سے بہتر ہیں، اس کی عطائیں وسیع ہیں اور اس کی رحمت کی امید رہتی ہے، تمہارے عطیات تمہارے احسان جتانے سے مکدر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر احسان جتائے عطا فرماتا ہے۔

59 فرمایا: جس نے علم کو اپنے گلے کا ہار بنایا اور علم کی بات بیان کی مگر اسے اس کا احساس نہیں کہ میں اللہ کے دین میں جو فتویٰ دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے سوال فرمائیں گے اس کی جان اور اس کا دین خطرہ میں ہے۔

60 فرمایا: جس کی صحبت بھاری ہو۔ یعنی اس کے پاس بیٹھنے سے دل گھبراتا ہو وہ نہ فقہ کو سمجھتا ہے اور نہ فقہاء کو۔

61 فرمایا: میں نے گناہوں میں ذلت محسوس کی تو انہیں شرافت کے خیال سے چھوڑ دیا، پھر یہی شرافت دینداری (یعنی تقویٰ) میں تبدیل ہو گئی۔

62 فرمایا: جس کا علم اسے حرام کاموں سے اور اللہ عز و جل کی نافرمانی سے نہ روکے وہ خسارہ میں ہے۔

63 ایک شخص کپڑے کے بازار میں آیا اور پوچھنے لگا کہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ فقیہ کی دکان کونسی ہے؟ امام صاحب نے اس کی بات سن لی تو فرمایا: وہ فقیہ نہیں ہے بلکہ اپنے اوپر

مشقت برداشت کر کے فتویٰ دیتا ہے۔

[64] توبہ (العنبري) فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جب میں پیدل چل رہا ہوں، یا لوگوں سے بات کر رہا ہوں، یا کھڑا ہوا ہوں، یا آرام کر رہا ہوں تو مجھ سے دین کی بات مت پوچھا کرو کیونکہ ان حالات میں آدمی کی عقل مجتمع نہیں ہوتی۔

[65] امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے حضرت علی بن النضرؒ حضرت معاویہ بن النضرؒ اور جنگ صفین کے مقتولین کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا مجھے ان سوالات کا ڈر ہے جن کا جواب میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر دینا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو مجھ سے ان (صحابہ رضی اللہ عنہم) کے بارے میں نہ پوچھیں گے۔ وہاں جو سوالات مجھ سے پوچھے جائیں گے ان کی مشغولیت زیادہ ضروری ہے۔ (چنانچہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، معلوم ہوا کہ فضول سوالات کا جواب دینا ضروری نہیں)۔

[66] سہل بن مزاحم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، امام صاحب اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے کہ اگر اس علم سے تمہارا مقصود خیر یعنی دین نہیں ہے تو تمہیں تو فیق نصیب نہ ہوگی۔

[67] فرمایا مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ دین میں محض اندازہ سے بات کرتے ہیں اور محض اپنے گمان پر عمل کر لیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا ہے:

وَلَا تَغْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْنُودًا [بنی اسرائیل ۳۶]

”اور جس بات کی آپ کو تحقیق نہیں اس کے پیچھے نہ چلیے، بے شک

کان آنکھ اور دل ان سے پوچھ ہوگی۔“

[68] فرمایا: جو شخص دنیا کے لیے علم دین سیکھتا ہے وہ علم کی برکت سے محروم رہتا ہے، علم اس کے دل میں راسخ نہیں ہوتا اور اس کے علم سے زیادہ نفع بھی نہیں ہوتا اور جو شخص

دین کا علم دین کے لیے سیکھتا ہے اسے برکت دی جاتی ہے، علم کا اس کے دل میں رسوخ ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے والے اس کے علم سے نفع اٹھاتے ہیں۔

69 فرمایا: تمام طاعات میں سے سب سے عظیم طاعت ایمان ہے اور تمام گناہوں میں بدترین گناہ کفر ہے جو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہا اور بدترین گناہ سے بچتا رہا تو باقی گناہوں کی مغفرت کی امید ہے۔

70 فرمایا: اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کرو، اور لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو۔

71 فرمایا: جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہو تو اسے دنیا کی تکلیفوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور فرمایا جسے اپنی جان عزیز ہوتی ہے اس پر دنیا اور دنیا کی مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں۔

72 فرمایا: فقہ (یعنی دین کی صحیح سمجھ کی بات) اس شخص کے سامنے مت بیان کرو جو اسے سننا نہ چاہتا ہو۔ اور جو شخص تمہاری بات درمیان میں کاٹ دے اسے خاطر میں نہ لاؤ کیونکہ اسے علم و ادب میں تم سے محبت نہیں ہے۔

73 اپنی محبوب جان کے لیے گناہ اور اپنے مبغوض وارث کے لیے اموال جمع مت کرو۔

74 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کا امام ایک دن غائب ہو گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے کہ لوگوں کو نماز پڑھا دوں، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کپڑے پکڑ کر پیچھے کر دیا اور ایک اور شخص کو نماز کے لیے آگے کر دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے اور گھر پہنچے تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے تو مجھے رسوا کر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں تم اپنے آپ رسوا کرنا چاہ رہے تھے میں نے تمہیں روک دیا۔ اگر تم نماز پڑھاتے اور ایک آدمی کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتا اس کے پیچھے پڑھی نماز دھروالو تو تم رسوا ہو جاتے پھر فرمایا: عام لوگوں کے معاملات میں مت دخل دیا کرو۔ [عقود الحمان]

75 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ۹۶ھ میں جب کہ میری عمر سولہ برس تھی میں اپنے

والد کے ساتھ حج کے لیے گیا۔ دیکھا کہ ایک بزرگ کے گرد لوگ جمع ہیں، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں والد نے بتایا کہ یہ حضور ﷺ کے صحابی ہیں اور ان کا نام عبداللہ بن الحارث بن جزءؓ ہے۔ میں نے پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی احادیث سننے کے لیے۔ پھر میرے والد نے مجھے آگے کر دیا مگر راستہ تنگ تھا تو میرے والد خود آگے بڑھے اور راستہ بنانے لگے یہاں تک کہ میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”جو شخص اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تفکرات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور ایسی جگہوں سے اسے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔“ [اخبار ابی حنیفہ للصیمری / ۴]

76 امام ابو حنیفہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے (مشہور صحابی) حضرت انس بن مالکؓ کو فرماتے سنا کہ میں نے رسول ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو نیکی کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی مدد کو بہت پسند فرماتے ہیں۔

77 معاویہ بن عبداللہ بن میسرہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ کو سنا وہ فرماتے تھے کہ جو شخص اہل قبلہ (یعنی عام مسلمان بالخصوص مخالف مسلمانوں) کے بارے میں حضرت علیؓ کی سیرت سے اعراض کرے گا وہ ناکام و نامراد ہے۔

78 امام شعبی رحمہ نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ کے سامنے فرمایا کہ جو شخص معصیت کی نذر مانے اس پر کفارہ واجب نہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے ظہار میں کفارہ واجب قرار دیا ہے حالانکہ قرآن کریم ہی نے ظہار کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے:

﴿اِنَّهُمْ لَيَقُولُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا﴾

(بے شک یہ لوگ نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں)

79 حسن بن زیاد رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ نے مجلس میں اپنے ایک

شاگرد کو دیکھا کہ جس نے بہت پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، جب مجلس ختم ہوئی تو امام صاحب رحمہ اللہ نے انہیں روک لیا۔ جب سب لوگ چلے گئے اور وہ صاحب اکیلے رہ گئے تو امام صاحب رحمہ اللہ نے انہیں ایک بڑی رقم دی اور فرمایا کہ یہ رقم لے لو اور اس سے اپنی حالات درست کر لو، انہوں نے عرض کیا کہ میں مالدار ہوں، نعمتیں گھر میں موجود ہیں اور مجھے اس رقم کی حاجت نہیں ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا مشاہدہ فرمائیں؟ تمہیں اپنی حالت بدنی چاہیے تاکہ تمہارے دوست تمہیں دیکھ کر غم زدہ نہ ہوں۔


80 امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت سخی تھے اور اپنے جاننے والوں پر بہت احسان کرتے تھے لیکن اگر کوئی ان کے احسانات کا شکریہ ادا کرتا تو فرماتے کہ: تم میرا شکریہ ادا کر رہے ہو حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو پہنچایا ہے اور رسول ﷺ فرماتے تھے: میں نہ تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں اور نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں بلکہ میں تو خزانچی ہوں جہاں (منجانب اللہ) حکم دیا جاتا ہے وہاں میں خرچ کر دیتا ہوں۔

70 اولیاء اللہ کی مفترک عجیب واقعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَاذَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ جَدًّا مَوْت

مؤلف: عبد الرحمن

مترجم: ابراہیم خان مہتاب



دارالعلوم

0333-4248644 لاہور مولانا علی ہاک